


جماعت احمدیہ امریکہ کا علمی، ادبی، تعلیمی اور تربیتی مجاہد



مسح موعد نمبر

لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ

القرآن الحكيم ٢٥:١٢

امان-شہادت ۱۳۸۸ھ
ما رج-اپریل ۲۰۰۹ء

النور



Baitul Hamd Mosque, Wittlich, Germany

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُخْرِجُهُم مَّنِ الظُّلْمُ إِلَى النُّودِ ۚ (2:258)

النور

مارچ۔ اپریل 2009

جماعت احمدیہ امریکہ کا علمی، تعلیمی، تربیتی اور ادبی مجلہ

نگران: ڈاکٹر احسان اللہ ظفر
امیر جماعت احمدیہ، یو۔ ایس۔ اے

مدیر اعلیٰ: ڈاکٹر نصیر احمد

مدیر: ڈاکٹر کریم اللہ زیریوی

ادارتی مشیر: محمد ظفر اللہ بخرا

معاون: حسنی مقبول احمد

Editors Ahmadiyya Gazette
15000 Good Hope Road
Silver Spring, MD 20905
karimzirvi@yahoo.com

قُلْ هُلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ طَقْلِ
اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ طَافَمُنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ
يُتَبَعَ أَمْنٌ لَّا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى حَفَمَا لَكُمْ قَفْ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ ۝ (یونس: 36)

پوچھ کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے؟ کہہ
دے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ پس کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا
ہے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو ہدایت نہیں پاسکتا مگر محض اس
صورت میں کہ اسے ہدایت دی جائے؟ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فصلے کرتے ہو۔
{احکام خداوندی صفحہ 700}

فہرست

2	قرآن کریم
3	احادیث مبارکہ
4	ارشادات حضرت مسیح موعود ﷺ
5	کلام امام الزمان حضرت مسیح موعود ﷺ
6	حضرت مسیح موعود علیہ اصلوٰۃ والسلام کی پہلی تقریر بر موقعہ جلسہ سالانہ 25 دسمبر 1897
17	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی کے ایمان افروز واقعات
30	دو خط، دو جذبے
38	حضرت امیر بی بی صاحبہ عرف مائی کا کو
41	نظم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرمعارف فارسی منظوم کلام پر تضمین، چودھری محمد علی مظفر عارفی
42	تعلیم الاسلام کا لمح کے تین خوش نصیب، شہید طالب علم
46	مکرم سعید احمد صاحب کوٹری راہِ مولیٰ میں قربان ہو گئے کیبا کوہر۔ اصحاب کہف کی غاریں
47	{53}

قرآن کجھ

وَنُرِيدُ أَنْ نَمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝

(القصص : 6)

اور ہم نے ارادہ کر کھا تھا کہ جن لوگوں کو ملک میں کمزور سمجھا گیا تھا ان پر احسان کریں اور ان کو سردار بنادیں اور ان کو (تمام نعمتوں کا) وارث کر دیں۔

تفسیر بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول ﷺ :

وَنُرِيدُ أَنْ نَمَنَ : اس میں سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے تین ضعیف بنالیں غصب سے کام نہ لیں ہم خود ان کے ناصرو معاون بن جاتے ہیں۔
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً : قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ امام انسان اس وقت بنتا ہے جبکہ لوگوں کو ہدایت دے اور صبر سے کام لے۔ اور ہماری آیات پر یقین پیدا کرے۔

خدا جو کہ قادر و مقتدر ہستی اور رب العالمین ہے اس نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ مامورین اور مرسلوں کے ساتھ ابتداء میں معمولی اور غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور جتنے اکابر اور بڑے بڑے مدبر کھلانے والے ہوتے ہیں وہ ان کے مقابل میں کھڑے کر دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی سفلی کوششیں ان کے نابود کرنے میں صرف کر لیں۔ اور اپنے سارے زوروں سے ان مرسلوں کی بخش کنی کے منصوبے کر لیں۔ پھر ان کو ذلیل اور پست کر دیا جاتا ہے۔ اور خدا کے بندوں کی فتح اور نصرت ہوتی ہے اور وہی آخر کار مظفر و منصور ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ تاکوئی خدائی سلسلہ پر احسان نہ رکھے۔ بلکہ خدا کی قدرت نمائی اور ذرۂ نوازی کا ایک بین ثبوت ہو کر ان مونکن ضعفاء کے دلوں میں ایمان ترقی ہو اور ان کے دلوں میں خدا کے عطا یا اس کی قدرتوں اور کرموں کے گن گانے کے جوش پیدا ہوں۔

پس تم اس خیال کو بھی بھی دل میں جگہ نہ دو کہ اکابر اور بڑے بڑے مالدار اور واسائے عظام تمہارے ساتھ نہیں ہیں اگر تم ذلیل ہو تو تم سے پہلے بھی کئی گروہ تمہاری طرح کے ذلیل گزرے ہیں۔ مگر آخر کار کامیابی کا تمغا یہی پاک اور مومن ذلیلوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ دیکھو موسیٰ ﷺ کے مقابلہ میں فرعون کیسا زبردست اور جبروت والا بادشاہ تھا مگر خدا نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَنْ نَمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کس طرح سے ان ضعیف اور کمزور لوگوں کو اپنے احسان سے امام اور بادشاہ بنادیا۔ دیکھو یہ باتیں صرف کہنے ہی کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی ہیں۔ عمل کے اصول کے واسطے کہنے والوں پر حسن ظن ہونا ضروری اور لازمی امر ہے۔ اگر دل میں ہو کہ کہنے والا مرتد فاسق و فاجر ہے، منافق ہے تو پھر نصیحت سے فائدہ اٹھانا معلوم! اور عمل کرنا ظاہر! بعض اوقات شیطان اس طرح سے بھی حملہ کرتا ہے اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیتا ہے کہ دل میں نصیحت کرنے والے کے متعلق بد نظری پیدا کر دیتا ہے پس اس سے بچنے کے واسطے بھی وہی ہتھیار ہے جس کا نام دعا اور در دندول کی اور پچی تڑپ سے نکلی ہوئی دعا ہے۔

(حقائق القرآن جلد سوم صفحات 307-309)

احادیث مبارکہ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا سُمُّهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاءُهُمْ شُرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ.

(مشکوہ کتاب العلم الفضل الثالث صفحہ 38 کنز العمال صفحہ 6)

حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہ رہے گا۔ الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان میں سے ہی فتنہ اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَتَبَعَّنَ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحُورَ ضَبٍّ تَبْعُتمُوهُمْ: قُلُّنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، قَالَ: فَمَنْ؟

(بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لتبیعن سنن من كان قبلکم)

حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ سر موفرق نہ ہوگا۔ اس طرح جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے ہم نے عرض کیا۔ حضور آپ کی مراد یہود و نصاری سے ہے؟ آپ نے فرمایا اور کس سے یعنی مسلمان یہود و نصاری کی طرح بے غیرت اور اخلاقی اقدار سے دور ہو جائیں گے۔

۔۔۔۔۔ ارشاداتِ عالیہ ۔۔۔۔۔

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہزار ہزار شکر اس قادر مطلق کا جس نے انسان کی رُوح اور ہر یک مخلوق اور ہر ذرہ کو محض اپنے ارادہ کی طاقت سے پیدا کر کے وہ استعدادیں اور قوتیں اور خاصیتیں اُن میں رکھیں جن پر غور کرنے سے ایک عجیب عالم عظمت اور قدرتِ الٰہی کا نظر آتا ہے اور جن کے دیکھنے اور سوچنے سے معرفتِ الٰہی کا دروازہ کھلتا ہے۔ اُسی قادرِ توانا کی مدح اور حمد میں محو رہنا چاہیئے جس کی ایجاد کے بغیر کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں ہوئی وہی ایک ذات عجیب الحکمت و عظیم القدرت ہے جس کے فقط حکمی طاقت سے جو کچھ وجود رکھتا ہے پیدا ہو گیا۔ ہر ایک ذرہ

انت ربّی انت ربّی

کی آواز سے زبان کشا ہے۔ ہر ایک جان

انت مالکی انت مالکی

کی شہادت سے نغمہ سرا ہے۔ وہی حکیم مطلق ہے جس نے انسانی روحوں کو ایک ایسا پرمفت جسم بخشنا کہ جو اس جہان میں کمالات حاصل کرنے اور اُس جہان میں اُن کا پورا پورا حظ اٹھانے کیلئے بڑا بھار ایا رہا وہ دگار ہے۔ روح اور جسم دونوں مل کر اس کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور ظاہری باطنی دونوں قوتیں اس کی شہادت دے رہی ہیں۔ وہی محسن حقیقی ہے جس نے وفاداری سے ایمان لانے والوں کو ہمیشہ کی رُستگاری کی خوشخبری دی اور اپنے صادق عارفوں اور سچے محبوبوں کیلئے اس جستِ دائیٰ کا وعدہ دیا جو بدرجہ اکمل و اتم مظہر العجائب ہے جس کی نہر میں اسی دنیوی حیات میں جوش مارنا شروع کرتی ہیں۔ جس کے درخت اسی جگہ کی آپاشی سے نشوونما پاتے جاتے ہیں۔ اُس کی قدرت و حکمت ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہے اور اُس کی حفاظت جو ہر یک چیز کے شامل حال ہے اُس کی عام خالقیت پر گواہ ہے۔ اُس کی حکیمانہ طاقتیں بے انہتا ہیں کون ہے جو ان کی تہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی قادرانہ حکمتیں عمیق درعیق ہیں۔ کون ہے جو ان پر احاطہ کر سکتا ہے۔ ہر یک چیز کے اندر اُسکے وجود کی گواہی چھپی ہوئی ہے۔ ہر یک مصنوع اُس صانع کامل کی راہ دکھلا رہا ہے۔ موجود بوجود حقیقی وہ ایک ربِ العالمین ہے اور باقی سب اُس سے پیدا اور اُسکے سہارے سے قائم اور اس کی قدرتوں کے نقشِ قدم ہیں۔

(روحانی خزانہ، جلد 2 سرمه چشم آریہ صفحات 4-2)

کلام امام الزمان۔۔۔۔۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

سُست کیوں بیٹھے ہو جیسے کوئی پی کر کونار
جس سے پڑ جائے گی اک دم میں پھاڑوں میں بُغَار
جس کی دُنیا میں نہیں ہے مثل کوئی زینہار
شادیاں کرتے تھے جو پیٹھیں گے ہو کر سوگوار
پست ہو جائیں گے جیسے پست ہو اک جائے غار
جس قدر جانیں تلف ہو گئی نہیں ان کا شمار
اُن کو جو جھکتے ہیں اس درگہ پہ ہو کر خاکسار
وہ جو ہے دھیما غضب میں اور ہے آمر زگار
دی خبر مجھ کو کہ وہ دن ہوں گے ایامِ بہار
یہ خدا کی وحی ہے اب سوچ لو اے ہوشیار
ایک دن ہوگا وہی جو غیب سے پایا قرار
لیک وہ دن ہونگے نیکوں کیلئے شیریں ثمار
جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار
دُور تر ہٹ جاؤ اس سے یہ ہے شیروں کی کچھار
بے خدا کوئی نہیں بقدمتو کوئی بہار
ورنہ اب باقی نہیں ہے تم میں امید سدھار

وقت ہے توبہ کرو جلدی مگر کچھ رحم ہو!
تم نہیں لو ہے کے کیوں ڈرتے نہیں اس وقت سے
وہ تباہی آئے گی شہروں پہ اور دیہات پر
ایک دم میں غم کدے ہو جائیں گے عشرت کدے
وہ جو تھے اوپنے محل اور وہ جو تھے قصرِ بریں
ایک ہی گردش سے گھر ہو جائیں گے مٹی کا ڈھیر
پر خُدا کا رحم ہے کوئی بھی اس سے ڈرنہیں
یہ خوشی کی بات ہے سب کام اس کے ہاتھ ہے
کب یہ ہوگا؟ یہ خدا کو علم ہے پر اس قدر
”پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی“
یاد کر فرقاں سے لفظِ زُلْزَلُتُ زِلْزَالَهَا
سخت ماتم کے وہ دن ہونگے مصیبت کی گھڑی
آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے
انبیاء سے بعض بھی اے غالو اچھا نہیں
کیوں نہیں ڈرتے خدا سے کیسے دل اندر ہوئے
یہ نشانِ آخری ہے کام کر جائے مگر

فرمودات حضرت مسح موعود ﷺ

یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نا بکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا

اہل اللہ مصائب و شدائد کے بعد درجات پاتھ ہیں

جو دل ناپاک ہے خواہ قول کتنا ہی پاک ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا۔ بلکہ خدا کا غصب مشتعل ہوگا۔ پس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لئے کہ تخریز کی جاوے جس سے وہ پہلدار درخت ہو جائے۔

(حضرت مسح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پہلی تقریر بر موقعہ جلسہ سالانہ 25 دسمبر 1897)

حضورؒ نے فرمایا:

تقویٰ کی بابت نصیحت

اپنی جماعت کی خیر خواہی کیلئے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی بابت نصیحت کی جاوے، کیونکہ یہ بات عقلمند کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجز تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

(الحل: 129)

ہماری جماعت کیلئے خاص کرتقویٰ کی ضرورت ہے۔ خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوب، کیزوں یا شرکوں میں بنتلا تھے یا کیسے ہی رو بہ دُنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پاویں۔

آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اگر اس بیماری کیلئے دوانہ کی جاوے اور علاج کیلئے دُکھ نہ اٹھایا جاوے بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل مونہ کو کالانہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے۔ صغار سہل انگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں۔ صغائر وہی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخر کار کل مونہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے ویسا ہی قہار اور منتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف و گزارف تو بہت کچھ ہے اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسی جماعت کی سزا ہی کیلئے وہ کفار کو ہی تجویز کرتا ہے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی دفعہ مسلمان کافروں سے تہہ تغیر کئے گئے۔ جیسے چنگیز خاں اور ہلاؤ خاں نے مسلمانوں کو تباہ کیا؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے۔ اس قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے۔ اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لا الہ

جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کیلئے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کیلئے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہوں۔

یعنی یہ بھی ایک علامتِ متقیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیٰ کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ مثلاً ایک دوکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغگوئی کے سوا اس کا کام ہی نہیں چل سکتا، اس لئے وہ دروغگوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کیلئے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے لیکن یہ امر ہرگز صحیح نہیں۔ خدا تعالیٰ متقیٰ کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اسے ایسے موقع سے بچایتا ہے جو خلافِ حق پر مجبور کرنے والے ہوں۔ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اُسے چھوڑ دیا۔ جب رحمان نے چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا۔

یہ نہ سمجھو کوہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تھاری مذکورے گا۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝

(الطلاق: 4)

لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے۔ ان کی ساری فکریں محض دینی امور کیلئے تھیں اور دنیوی امور حوالہ بخدا تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکاتِ تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیٰ کو ان مصائب سے مخلصی بخشنا ہے جو دنیٰ امور میں حارج ہوں۔

متقیٰ کیلئے روحانی رزق

ایسا ہی اللہ تعالیٰ متقیٰ کو خاص طور پر رزق دیتا ہے یہاں میں معارف کے رزق کا ذکر کروں گا۔ آنحضرت ﷺ کو باوجود اُمیٰ ہونے کے تمام جہان کا مقابلہ کرنا تھا، جس میں اہل کتاب، فلاسفہ، اعلیٰ درجہ کے علمی مذاق والے لوگ اور

اَللَّهُ تُوپَكَارْتِی ہے لیکن اس کا دل اور طرف ہے اور اپنے افعال سے وہ بالکل رُوبدُ نیا ہے تو پھر اس کا قہر اپنارنگ دکھاتا ہے۔

قول فعل میں مطابقت

اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اُس کا قول فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے پھر جب دیکھے کہ اس کا قول فعل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ مورِ غضبِ الہی ہوگا۔ جو دل ناپاک ہے خواہ قول کتنا ہی پاک ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا۔ بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا۔ پس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لئے کہ تمہری زیارت کے اس کا اندر ورنہ کیسا ہے؟ اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے؟ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اُس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمه بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے۔ وغیرہ ہے وہ پرواہ نہیں کرتا۔ بدُر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی، ہر طرح فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رورکر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرور ت الحاج کیا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے یعنی ممکن ہے کہ وعدہِ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں۔

برکاتِ تقویٰ

پس ہمیشہ دیکھنا چاہیئے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیٰ کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیٰ کو مکروہاتِ دنیا سے آزاد کر کے اُس کے کاموں کا خود کفیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کفر مایا:

وَ مَنْ يَقِنَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝

(الطلاق: 4,3)

احسان کے علاوہ اور احسان کرنا۔ یہ نوافل ہیں۔ یہ بطور مکملات اور مُتّهمات فرائض کے ہیں۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ اور صدقات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ، پاؤں ٹھی کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔

ہر ایک فعل خدا کی منشاء کے مطابق ہو

بات یہ ہے کہ جب انسان جذباتِ نفس سے پاک ہوتا اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فعل خدا کی منشاء کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ابتلاء میں پڑتے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ فعل خدا کے ارادہ سے مطابق نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے۔ مثلاً غصہ میں آکر کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس سے مقدمات بن جایا کرتے ہیں۔ فوجداریاں ہو جاتی ہیں، مگر اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بلا استصواب کتاب اللہ اس کا حرکت و سکون نہ ہوگا اور اپنی ہر ایک بات پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو یقینی امر ہے کہ کتاب اللہ مشورہ دے گی۔ جیسے فرمایا:

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْيُسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

(النعام: 60)

سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتاب اللہ سے لیں گے تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا، لیکن جو اپنے جذبات کا تابع ہے۔ وہ ضرور نقصان ہی میں پڑے گا۔ بسا اوقات وہ اس جگہ موآخذہ میں پڑے گا۔ سواس کے مقابل اللہ نے فرمایا کہ ولی جو میرے ساتھ بولتے چلتے کام کرتے ہیں۔ وہ گویا اس میں محو ہیں۔ سو جس قدر کوئی محیت میں کم ہے وہ اتنا ہی خدا سے دور ہے، لیکن اگر اُس کی محیت ولی ہی ہے جیسے خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں۔ اُن کی

عالم فاضل شامل تھے، لیکن آپ کو روحانی رزق اس قدر ملا کہ آپ سب پر غالب آئے اور ان سب کی غلطیاں نکالیں۔

یہ روحانی رزق تھا جس کی نظیر نہیں۔ متّقی کی شان میں دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے:

إِنْ أُولَيَا وَهُوَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ..

(الأنفال: 35)

اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو متّقی ہیں،

یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست۔ پس یہی نعمت ہے کہ تھوڑی سی تکلیف سے خدا کا مقرب کہلانے۔ آج کل زمانہ کس قدر پست ہمت ہے۔ اگر کوئی حاکم یا افسر کسی کو یہ کہدے کہ تو میرا دوست ہے، یا اُس کو کرسی دے اور اُس کی عزت کرے، تو وہ شیخی کرتا ہے۔ فخر کرتا پھرتا ہے، لیکن اُس انسان کا کس قدر افضل رتبہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی یادوست کہہ کر پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا ہے جیسے کہ ایک حدیث بخاری میں وارد ہے:

لَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحِبْبَتْهُ كُنْتُ سَمِعَةُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبَصِّرُ بِهِ وَبَدَهُ الَّذِي يَبْدِلُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَاَعْطِيَنَهُ وَلَئِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَاَعِذْنَهُ۔

(صحیح بخاری جز رابع۔ باب التوضع)

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ولی ایسا قرب میرے ساتھ بذریعہ نوافل پیدا کر لیتا ہے۔

فرائض اور نوافل

انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو جیسے قرضہ کا اُتارنا یا نیکی کے مقابل نیکی۔ ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے مقابل نوافل ہوتے ہیں یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو۔ جیسے احسان کے مقابل

یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھاتے ہیں، یعنی ابتلاء کے وقت ایسا شخص دکھلا دیتا ہے کہ جو میں نے مُنہ سے وعدہ کیا تھا وہ عملی طور سے پورا کرتا ہوں۔

ابتلا ضروری ہے

ابتلا ضروری ہے جیسے یہ آیت اشارہ کرتی ہے:-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا إِنَّا مَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝

(العنکبوت: 3)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ مفسروں کی غلطی ہے کہ فرشتوں کا اتنا ذرع میں ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دل کو صاف کرتے ہیں اور نجاست اور گندگی سے جو اللہ سے دور رکھتی ہے اپنے نفس کو دُور رکھتے ہیں ان میں سلسلہ الہام کیلئے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے پھر مُتقیٰ کی شان میں ایک اور جگہ فرمایا:

الآَءِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا حَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝

(یونس: 63)

یعنی جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی غم نہیں۔ جس کا خدا متكلفل ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ کوئی مقابلہ کرنے والا ضرر نہیں دے سکتا اگر خدا ولی ہو جائے۔

پھر فرمایا:

وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝

(حُمَ السجدة: 31)

یعنی تم اس جنت کیلئے خوش ہو جس کا تم کو وعدہ ہے۔

قرآن کی تعلیم سے پایا جاتا ہے کہ انسان کیلئے دو جنت ہیں جو شخص خدا سے پیار کرتا ہے کیا وہ ایک جلنے والی زندگی میں رہ سکتا ہے؟ جب اس جگہ ایک حاکم کا دوست دنیوی تعلقات میں ایک قسم کی بہشتی زندگی میں ہوتا ہے تو کیوں نہ

حمایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

مَنْ عَادَ لِي وَلِيًا فَقَدْ أَذْنَتُهُ بِالْحَرْبِ

(الحدیث)

جو شخص میرے ولی کا مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔

اب دیکھ لو کہ مُتقیٰ کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا پایہ کس قدر عالی ہے جس کا قرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہے تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہو گا۔

مُتقیٰ کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے

لوگ بہت سے مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن مُتقیٰ بچائے جاتے ہیں بلکہ ان کے پاس جو آ جاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے۔ مصائب کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا اپنا اندر اس قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ امراض کوہی دیکھ لیا جاوے کہ ہزار ہا مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں، لیکن جو تقویٰ کے قلعہ میں ہوتا ہے وہ ان سے محفوظ ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک جنگل میں ہے جو درندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔

مُتقیٰ کو اسی دنیا میں بشارتیں ملتی ہیں

مُتقیٰ کیلئے ایک اور بھی وعدہ ہے:-

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ط

(یونس: 65)

یعنی جو مُتقیٰ ہوتے ہیں۔ ان کو اسی دنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کے ذریعہ ملتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ صاحب مکافات ہو جاتے ہیں۔ مکالمہ اللہ کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ بشریت کے لباس میں ہی ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا:-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ..

(حُمَ السجدة: 31)

میں اور بعض مصائب میں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں باتیں میر آئیں۔ سوجس قدر ہم آپؐ کے اخلاق پیش کر سکیں گے۔ کوئی اور قوم اپنے کسی نبی کے اخلاق پیش نہ کر سکے گی۔ جیسے مسیح کا صرف صبر ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ مارکھاتا رہا، لیکن یہ کہاں سے نکلے گا کہ ان کو طاقت نصیب ہوئی۔ وہ نبی پیغمبر چھے ہیں۔ لیکن ان کے ہر قسم کے اخلاق ثابت نہیں۔ چونکہ ان کا ذکر قرآن میں آگیا، اس لئے ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ وَالْأَنْجِيلُ مِنْ تُوْاْنَ كَأَكْوَىْ أَيْسَا خُلْقُ ثَابَتْ نَهْيِنْ۔ جیسے الواعزם انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ہادی کامل بھی اگر ابتدائی تیرہ برس کی مصائب میں مرجاتے تو ان کے اور بہت سے اخلاقی فاضلہ مسیح کی طرح ثابت نہ ہوتے، لیکن دوسرا زمانہ جب فتح کا آیا اور مجرم آپؐ کے سامنے پیش کئے گئے تو اس سے آپؐ کی صفتِ حرم اور عفو کا کامل ثبوت ملا اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپؐ کے کام کوئی جبر پرنہ تھے۔ نہ زبردستی تھی، بلکہ ہر ایک امر اپنے طبعِ رنگ میں ہوا۔ اسی طرح آپؐ کے اور بہت سے اخلاق بھی ثابت ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ:

نَحْنُ أُولَئِيُّ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
حَمَ السَّجْدَة: (32)

کہ ہم اس دنیا میں بھی آور آئندہ بھی مقتی کے ولی ہیں۔

سو یہ آیت بھی تکذیب میں ان نادنوں کے ہے جنہوں نے اس زندگی میں نزولِ ملائکہ سے انکار کیا۔ اگر نزع میں نزولِ ملائکہ تھا، تو حیۃ الدُّنْيَا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا۔

مُقْتَىٰ کو آئندہ کی زندگی میہیں دھلائی جاتی ہے

سو یہ ایک نعمت ہے کہ ولیوں کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ آئندہ کی زندگی محض ایمانی ہے، لیکن ایک مقتی کو آئندہ کی زندگی میہیں دھلائی جاتی ہے۔ انہیں اسی زندگی میں خدا ملتا ہے، نظر آتا ہے اور ان سے با تین کرتا ہے سو اگر ایسی صورت کسی کو نصیب نہیں، تو اس کا مرنا اور یہاں سے چلے جانا نہایت

ان کیلئے دروازہ جنت کا کھلے جو اللہ کے دوست ہیں؛ اگرچہ دنیا پر از تکلیف و مصائب ہے، لیکن کسی کو کیا خبر وہ کیسی لذتِ اٹھاتے ہیں؟ اگر ان کو رنج ہو تو آدھ گھنٹہ تکلیف اٹھانا بھی مشکل ہے، حالانکہ وہ تو تمام عمر تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایک زمانہ کی سلطنت ان کو دے کر ان کو اپنے کام سے روکا جاوے تو کب کسی کی سنتے ہیں؟ اس طرح خواہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، وہ اپنے ارادہ کو نہیں چھوڑتے۔

کامل نمونہ اخلاق

ہمارے ہادی کامل کو یہ دونوں باتیں دیکھنی پڑیں۔ ایک وقت تو طائف میں پھر برسائے گئے۔ ایک کثیر جماعت نے سخت سے سخت جسمانی تکلیف دی، لیکن آنحضرت ﷺ کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ مصائب و شدائے ان پر کوئی اثر نہ پڑا، تو انہوں نے جمع ہو کر بادشاہت کا وعدہ دیا۔ اپنا امیر بنانا چاہا۔ ہر ایک قسم کے سامان آسانش مہیا کر دینے کا وعدہ کیا۔ حتیٰ کہ عمدہ سے عمدہ بی بی بھی۔ بدیں شرط کہ حضرت بتوں کی مدد میں چھوڑ دیں۔ لیکن جیسے کہ طائف کی مصیبت کے وقت ویسی ہی اس وعدہ بادشاہت کے وقت حضرت نے کچھ پرواہ نہ کی اور پھر کھانے کو ترین حیج دی۔ سو جب تک خاص لذت نہ ہو تو کیا ضرورت تھی کہ آرام چھوڑ کر دکھوں میں پڑتے۔

یہ موقع سوا ہمارے رسول علیہ الصلوٰۃ والتحیٰت کے کسی اور نبی کو نہ ملا کہ ان کو نبوت کا کام چھوڑنے کیلئے کوئی وعدہ دیا گیا ہو۔ مسیح کو بھی یہ امر نصیب نہ ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں صرف آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا کہ آپؐ کو سلطنت کا وعدہ دیا گیا اگر آپؐ اپنا کام چھوڑ دیں۔ سو یہ عزت ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ہی خاص ہے۔

اسی طرح ہمارے ہادی کامل کو دونوں زمانے تکلیف اور فتح مندی کے نصیب ہوئے، تاکہ وہ دونوں اوقات میں کامل نمونہ اخلاق کا دکھا سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے متقیوں کیلئے چاہا کہ ہر دو لذتیں اٹھائیں۔ بعض وقت دُنیوی لذات، آرام اور طیبات کے رنگ میں۔ بعض وقت عمرت اور مصائب میں۔ تاکہ ان کے دونوں اخلاق، کامل نمونہ دکھا سکیں۔ بعض اخلاق طاقت

آگ کا دیکھنا عین اليقین ہے۔ ان سے بڑھ کر درجہ حق اليقین کا ہے یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر جلن اور حرقت سے یقین کر لینا کہ آگ موجود ہے۔ پس کیسا وہ شخص بد قسمت ہے جس کو تینوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ اس آیت کے مطابق جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں وہ کورانہ تقلید میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبْلَنَا ط

(العنکبوت: 70)

جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہیں دھلاندیں گے۔

یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دعا ہے کہ

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

(الفاتحہ: 6)

سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مدد نظر رکھ کر نماز میں دعا بے الحاج کرے اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندرھا اٹھایا جاوے۔ فرمایا:

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى--

(بنی اسرائیل: 73)

کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہے۔

جس کی منشاء یہ ہے کہ اس جہان کے مشاہدہ کیلئے اسی جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ آئندہ جہان کو محسوس کرنے کیلئے حواس کی طیاری اسی جہان میں ہوگی۔ پس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورانہ کرے۔

اندھا کون ہے؟

اندھے سے مراد ہے جو روحانی معارف اور روحانی لذات سے خالی ہے۔ ایک شخص کورانہ تقلید سے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان کہلاتا

خراب ہے۔ ایک ولی کا قول ہے کہ جس کو ایک سچا خواب عمر میں نصیب نہیں ہوا اُس کا خاتمه خطرناک ہے۔ جیسے کہ قرآن مون کے یہ نشان ٹھہرا تا ہے۔ سنو! جس میں یہ نشان نہیں اُس میں تقویٰ نہیں۔ سو ہم سب کی یہ دعا چاہیے کہ یہ شرط ہم میں پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام، خواب، مکاشفات کا فیضان ہو، کیونکہ مون کا یہ خاصہ ہے سو یہ ہونا چاہیے۔

بہت سی اور بھی برکات ہیں جو مقتی کو ملتی ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں جو قرآن کے شروع میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مون کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ دعائیں:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

(الفاتحہ: 6-7)

یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلان لوگوں کی جن پر تیر انعام و فضل ہے۔۔۔

یہ اس لئے سکھلائی گئی کہ انسان عالی ہمت ہو کر اس سے خالق کا منشاء سمجھے اور وہ یہ ہے کہ یہ امت بہام کی طرح زندگی بسرنہ کرے بلکہ اس کے تمام پردے کھل جاویں۔ جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ولایت بالہ اماموں کے بعد ختم ہو گئی۔ برخلاف اس کے اس دعا سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو مقتی ہو اور خدا کی منشاء کے مطابق ہو، تو وہ ان مراتب کو حاصل کر سکے جوانبیاء اور اصفیاء کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت سے قوی ملے ہیں جنہوں نے نشوونما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے۔ ہاں ایک بکرا چونکہ انسان نہیں، اس کے قوی ترقی نہیں کر سکتے۔ عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیاء کے حالات سنتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوئے اس پر نہ صرف ایمان ہی ہو بلکہ اُسے بتدریج ان نعماء کا علم ایقین، عین ایقین اور حق ایقین ہو جاوے۔

علم کے تین مدارج

علم کے تین مدارج ہیں۔ علم ایقین، عین ایقین، حق ایقین۔ مثلاً ایک جگہ سے دھواں نکلتا دیکھ کر آگ کا یقین کر لینا علم ایقین ہے، لیکن خود آنکھ سے

ہے۔ جس کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب کُل جنگ اپنے نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکے ہیں اور وہ امن میں آگیا اور ہر ایک قسم کے خطرات سے پاک ہو گیا۔ اسی امر کی طرف ہمارے ہادی کامل نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے لیکن میرا شیطان مسلم ہو گیا ہے۔ متّقی کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے، لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے، تو کُل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ریاء ہی ہے، جس سے اُسے آٹھوں پھر جنگ ہے۔ متّقی ایک ایسے میدان میں ہے جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل کا ہاتھ اُس کے ساتھ ہو تو اُسے فتح ہو۔ جیسے ریاء جس کی چال ایک چیونٹی کی طرح ہے۔ بعض اوقات انسان بے سمجھے لیکن موقعہ پر ریاء کو دل میں پیدا ہونے کا موقعہ دے دیتا ہے مثلاً ایک کا چاقو گم ہو جاوے اور وہ دوسرے سے دریافت کرے تو اس موقعہ پر ایک متّقی کا جنگ شیطان سے شروع ہو جاتا ہے جو اُسے سکھاتا ہے کہ اس طرح دریافت کرنا ایک قسم کی بے عزّتی ہے، جس سے اس کے افروختہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جاوے۔ اس موقعہ پر ایک متّقی کو اپنے نفس کی بد خواہش سے جنگ ہے۔ اگر اس شخص میں محض اللہ دیانت موجود ہو تو غصہ کرنے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے کیونکہ دیانت جس قدر مخفی رکھی جائے اسی قدر بہتر ہے۔ مثلاً ایک جو ہری کو راستہ میں چند چور مل جاویں اور چور آپس میں اس کے متعلق مشورہ کریں۔ بعض اُسے دولت مند بتلو ایں اور بعض کہیں وہ کنگال ہے۔ اب مقابلتا یہ جو ہری انہیں کو پسند کرے گا جو اسے کنگال ظاہر کریں گے۔

اعمال میں اخفاء اچھا ہے

اسی طرح یہ دنیا کیا ہے۔ ایک قسم کی دارالاہلیاء ہے۔ وہی اچھا ہے جو ہر ایک امر خفیہ رکھے اور ریاء سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال اللہ ہوتے ہیں وہ کسی پر اپنے اعمال ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ یہی لوگ متّقی ہیں۔ میں نے تذکرہ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ اس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے۔ کوئی اس کی مدد کرے۔ ایک نے صالح سمجھ کر اُس کو

ہے۔ دوسری طرف اسی طرح ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا، رسول اور قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس کی دین سے محبت بھی قابل اعتراض ہے۔ خدا اور رسول کی ہتک کرنے والوں میں اس کا گزر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی روحانی آنکھیں نہیں۔ اس میں محبت دین نہیں۔ وَاللّٰهُ مُحْبِّتُ دِيْنَهُ نَهِيْنَ۔ سکھلا یا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں اگر تو لینے کو تیار ہے۔ پس یہ دعا کرنا ہی اس ہدایت کو لینے کی تیاری ہے۔

متّقی

اس دعا کے بعد سورہ البقرۃ کے شروع میں ہی جو هُدًی لِلْمُتّقِيْنَ (البقرة: 3) کہا گیا، تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی تیاری کی۔ یعنی یہ کتاب متّقی کو مکال تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ سواں کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتاب ان کیلئے نافع ہے جو پرہیز کرنے اور نصیحت کے سنبھال کو تیار ہوں۔ اس درجہ کا متّقی وہ ہے جو مُخْلِّی بِالظَّبْعِ ہو کر حق کی بات سننے کو تیار ہو۔ جیسے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ متّقی بنتا ہے۔ جب کسی غیر مذہب کے اچھے دن آئے تو اس میں اتفاق پیدا ہوا۔ عجب، غرور، پنداڑ دُور ہوا۔ یہ تمام روکیں تھیں جو دُور ہو گئیں۔ ان کے دُور ہونے سے تاریک گھر کی کھڑکی کھل گئی اور شعاعیں اندر داخل ہو گئیں۔

یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب متّقین کی ہدایت ہے، یعنی هُدًی لِلْمُتّقِيْنَ تو اِتقَا جو اِفتیعال کے باب سے ہے اور یہ باب تکلف کیلئے آتا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر یہاں ہم تقویٰ چاہتے ہیں وہ تکلف سے خالی نہیں جس کی حفاظت کیلئے اس کتاب میں ہدایات ہیں۔ گویا متّقی کو نیکی کرنے میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے۔

عبد صالح

جب یہ گزر جاتا ہے تو سالک عبد صالح ہو جاتا ہے۔ گویا تکلیف کا رنگ دُور ہوا۔ اور صالح نے طبعاً و فطرتاً نیکی شروع کی۔ وہ ایک قسم کے دارالامان میں

مقصود پر پہنچتا ہے، اسلئے بے صبر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کنوں اس پچاس ہاتھ تک کھو دنا ہے۔ اگر دو چار ہاتھ کے بعد کھو دنا چھوڑ دیا جائے، تو محض یہ ایک بد ظنی ہے۔ اب تقویٰ کی شرط یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، ان کا خیر تک پہنچائے اور بے صبر نہ ہو جاوے۔

راہِ سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہیں

راہِ سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہیں۔ ایک دین الحجۃ زوالے جو موٹی موٹی باقتوں پر قدم مارتے ہیں مثلاً احکامِ شریعت کے پابند ہو گئے اور نجات پا گئے۔ دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا۔ ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے؛ حتیٰ کہ منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ لیکن نامراد وہ فرقہ ہے کہ دین الحجۃ زے تو قدم آگے رکھا لیکن منزل سلوک کو طے نہ کیا۔ وہ ضرور دہریہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے، چلہ کشیاں بھی کیں لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جیسے ایک شخص منصور مسیح نے بیان کیا کہ اُس کی عیسائیت کا باعث یہ تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا، چلہ کشی کرتا رہا، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا، تو بد نظر ہو کر عیسائی ہو گیا۔

صدق و صبر

سو جو لوگ بے صبری کرتے ہیں وہ شیطان کے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔ سو متوفی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا تو ہاتھ یہی آواز دیتا کہ تو مردود و منذول ہے۔ ایک دفعہ ایک مرید نے یہ آوازن لی اور کہا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا۔ اب لکریں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ بہت رویا اور کہا کہ میں اُس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ اگر ملعون ہوں تو ملعون ہی سہی۔ غنیمت ہے کہ مجھ کو ملعون تو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں مرید سے ہو ہی رہی تھیں کہ آواز آئی تو مقبول ہے۔ سو یہ سب صدق و صبر کا نتیجہ تھا جو متوفی میں ہونا شرط ہے۔

ایک ہزار روپیہ دیا۔ انہوں نے روپیہ لے کر اس کی سخاوت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہو گئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا جو دینا نہیں چاہتی، چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا۔ جس پر ہر ایک نے لعنت کی اور کہا کہ جھوٹا ہے۔ اصل میں روپیہ دینا نہیں چاہتا۔ جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا۔ تو وہ شخص ہزار روپیہ اس کے پاس لا یا اور کہا کہ آپ نے سرِ عام میری تعریف کر کے مجھے محروم ثواب آخرت کیا، اس لئے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ روپڑا اور کہا اب تو قیامت تک مور دلعن طعن ہوا، کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے روپیہ واپس دے دیا ہے۔

ایک متنقیٰ نفس امارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے اور خفیہ رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بد معاش کسی بد چلنی کا مرکتب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے، اسی طرح ایک متنقیٰ چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے۔ سچا متنقیٰ ایک قسم کا ستر چاہتا ہے۔ تقویٰ کے مراتب بہت ہیں، لیکن بہر حال تقویٰ کیلئے تکلف ہے اور متنقیٰ حالت جنگ میں ہے اور صائم اس جنگ سے باہر ہے جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر اپریاء کا ذکر کیا ہے، جس سے متنقیٰ کو آٹھوں پھر جنگ ہے۔

ریاء اور حلم کا جنگ

بس اوقات ریاء اور حلم کا جنگ ہو جاتا ہے کبھی انسان کا غصہ کتاب اللہ کے برخلاف ہوتا ہے۔ گالی سُن کر اُس کا نفس جوش مارتا ہے۔ تقویٰ اس کو سکھلاتا ہے کہ وہ غصہ کرنے سے باز رہے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے:

وَإِذَا مَرُوا إِبَالَلْغُو مَرُوا إِكْرَاماً ۝
(الفرقان: 73)

ایسا ہی بے صبری کے ساتھ اسے اکثر جنگ کرنا پڑتا ہے۔ بے صبری سے مراد یہ ہے کہ اُس کو راہِ تقویٰ میں اس قدر رفتگوں کا مقابلہ ہے کہ مشکل سے وہ منزل

جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا۔ اس کو آپؐ سے اندر ونی بغرض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کو لے لیا۔ کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو بھول گئے ہوتے ہیں۔

وَتُلَكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

(آل عمران: 141)

سواس شیخزادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے۔ کہاں سے ایسا صاحب خوارق آگیا کہ لوگ اس کی طرف جھکتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ بتیں خدا تعالیٰ نے حضرت بایزید پر ظاہر کیں تو انہوں نے قصہ کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک یمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جل رہا تھا۔ تیل اور پانی میں بحث ہوئی۔ پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندہ ہے اور باوجود کشافت کے میرے اوپر آتا ہے۔ میں ایک مصفاً چیز ہوں اور طہارت کے لئے استعمال کیا جاتا ہوں لیکن نیچے ہوں۔ اس کا باعث کیا ہے؟ تیل نے کہا کہ جس قدر صعبوتوں میں نے کھینچی ہیں، تو نے وہ کہاں جھیلی ہیں جس کے باعث یہ بلندی مجھے نصیب ہوئی۔ ایک زمانہ تھا جب میں بویا گیا، زمین میں مخفی رہا، خاکسار ہوا۔ پھر خدا کے ارادہ سے بڑھا، بڑھنے نہ پایا کہ کاٹا گیا۔ پھر طرح طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا۔ کوہوں میں پیسا گیا پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی۔ کیا ان مصائب کے بعد بھی بلندی حاصل نہ کرتا؟

یہ ایک مثال ہے کہ اہل اللہ مصائب و شدائد کے بعد درجات پاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صد لیکن میں داخل ہو گیا۔ قرآن شریف کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو، جبکہ نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آؤں، جنہوں نے بعض وقت تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیا:

حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ الَّا إِنْ نَصْرَ

استقامت

یہ جو فرمایا ہے کہ:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدِنَّهُمْ سُبْلًا

(العنکبوت: 70)

یعنی ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پاویں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیغمبر کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنا ہوگا۔ ایک دو گھنٹہ کے بعد بھاگ جانا مجاہد کا کام نہیں بلکہ جان دینے کیلئے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ سو متqi کی نشانی استقامت ہے۔ جیسے کہ فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

(خطم السجدہ: 31)

یعنی جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور استقامت دکھائی اور ہر طرف سے ممنہ پھیپھی کر اللہ کو ہونڈا۔

مطلوب یہ کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے اور وہ اللہ کو پہچانا اور کسی ابتلاء اور زلازل اور امتحان سے نہ ڈرنا ہے۔ ضرور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مورود مخاطبہ و مکالمہ الہی انبیاء کی طرح ہوگا۔

ولی بنے کیلئے ابتلاء ضروری ہیں

بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں اور واصلیں سے ہو جاویں۔ ایسے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں۔ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر صد ہاولی فی الفور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرْكُوَا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفَتَّنُونَ

(العنکبوت: 3)

جبکہ انسان آزمایا نہ جاوے فتن میں نہ ڈالا جاوے وہ کب ولی بن سکتا ہے۔ ایک مجلس میں بایزید وعظ فرمار ہے تھے۔ وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا،

صیقلوں کے بعد ہی مجھی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں منہ دیکھنے والے کامنہ نظر آ جاتا ہے۔ مجاهدات بھی صیقل کا ہی کام کرتے ہیں دل کا صیقل یہاں تک ہونا چاہیے کہ اس میں سے بھی منہ نظر آ جاوے۔ منہ کا نظر آنا کیا ہے؟ **تَخَلَّقُوا**
بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کا مصدقہ ہونا۔ سالک کا دل آئینہ ہے جس کو مصائب و شدائے اس قدر صیقل کر دیتے ہیں کہ اخلاق النبیؐ اُس میں منعکس ہو جاتے ہیں اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب بہت مجاهدات اور ترزیکوں کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی کدورت یا کثافت نہ رہے تب یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک مومن کو ایک حد تک ایسی صفائی کی ضرورت ہے۔ کوئی مومن بلا آئینہ ہونے کے نجات نہ پائے گا۔ سلوک والا خود یہ صیقل کرتا ہے، اپنے کام سے مصائب اٹھاتا ہے، لیکن جذب والا مصائب میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا خود اس کا صیقل ہوتا ہے۔ اور طرح طرح کے مصائب و شدائے صیقل کر کے اس کو آئینہ کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ دراصل سالک و مجدوب دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے۔ سو متقیٰ کے دو حصے ہیں۔ سلوک و جذب۔

ایمان بالغیب

لتوئی جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں، کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ:

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ...

(البقرة: 4,3)

اس میں ایک تکلف ہے کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل کرتا ہے تو پھر غیب اُس کیلئے غیب نہیں رہتا کیونکہ صالح کے اندر سے ایک نہ رکھتی ہے جو اس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ خدا اور اس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ:

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى

(بنی اسرائیل: 73)

اسی سے ظاہر ہے کہ جیتکہ انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا۔ متقیٰ کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے سرے تیار کرتا

اللهِ قَرِيبٌ

(البقرة: 215)

اللہ کے بندے ہمیشہ بلااؤں میں ڈالے گئے پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔

ترقیات کی دورا ہیں

صوفیوں نے ترقیات کی دورا ہیں لکھی ہیں۔ ایک سلوک دوسرا جذب۔

سلوک وہ ہے جو لوگ آپ علمندی سے سوچ کر اللہ اور رسولؐ کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ

(آل عمران: 32)

یعنی اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرو۔

وہ ہادیٰ کامل و ہی رسول ہیں جنہوں نے وہ مصائب اٹھائیں کہ دنیا اپنے اندر نظیر نہیں رکھتی۔ ایک دن بھی آرام نہ پایا۔ اب پیروی کرنے والے بھی حقیقی طور سے وہی ہونگے جو اپنے متبع کے ہر قول فعل کی پیروی پوری چد و جہد سے کریں۔ مُتَّبِعٌ وہی ہے جو سب طرح پیروی کرے گا۔ سہل انگار اور سخت گزار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے غصب میں آوے گا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تو سالک کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تاریخ دیکھے اور پھر پیروی کرے۔ اسی کا نام سلوک ہے۔ اس راہ میں بہت مصائب و شدائے ہوتے ہیں ان سب کو اٹھانے کے بعد ہی انسان سالک ہوتا ہے۔

جذب : اہل جذب کا درجہ سالکوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلوک کے درجہ پر ہی نہیں رکھتا، بلکہ خود ان کو مصائب میں ڈالتا اور جاذبہ ازملی سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گل انبویاء مجدوب ہی تھے۔ جس وقت انسانی روح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے اُن سے فرسودہ کار اور تجربہ کار ہو کر روح چمک آٹھتی ہے۔ جیسے کہ لوہا یا شیشه اگرچہ چمک کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے لیکن

ہدایت چاہتا ہے جس سے اُس کی نماز کھڑی ہو جائے۔ ان وساوس کے مقابل میں متقی ایک بچ کی طرح ہے جو خدا کے آگے گڑھتا تھا۔ روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں **أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ** (الاعراف: 177) ہو رہا ہوں۔ سو یہی وہ جنگ ہے جو متقی کو نماز کے ساتھ کرنی ہوتی ہے اور اسی پر ثواب مترب ہو گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں وساوس کو فی الفور دو کرنا چاہتے ہیں؛ حالانکہ **وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ** کی منشاء کچھ اور ہے۔ کیا خدا نہیں جانتا؟ حضرت شیخ عبدال قادر گیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے کہ ثواب اس وقت تک اعمال ہیں جب تک ایک جدوجہد سے وساوس کا مقابلہ ہے لیکن جب اُن میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور صاحب صوم و صلوٰۃ تقویٰ کے تکلف سے بچ کر صلاحیت سے نکلن ہو گیا، تواب صوم و صلوٰۃ اعمال نہیں رہے۔ اس موقع پر انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ثواب تو اس وقت تھا جس وقت تک تکلف کرنا پڑتا تھا۔ سوبات یہ ہے کہ نماز اب عمل نہیں بلکہ ایک انعام ہے۔ یہ نماز اس کی ایک غذا ہے جو اس کیلئے **فَوَالْعَيْنِ** ہے۔ یہ گویا نقد بہشت ہے۔

مقابل میں وہ لوگ جو مجاہدات میں ہیں وہ کشتنی کر رہے ہیں۔ اور یہ نجات پاچکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا تو اس کے مصائب بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً ایک مختلط اگر یہ کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، تو وہ کوئی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے۔ اس میں تو صفتِ بدنظری ہے ہی نہیں لیکن اگر ایک مرد صاحبِ رجولیت ایسا کرے تو ثواب پائے گا۔ اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض بعض امور میں اُس کی مشتاقی اس کو قادر کر دیتی ہے۔ نفس کے ساتھ اس کی مصالحت ہو گئی۔ اب وہ ایک بہشت میں ہے، لیکن وہ پہلا سا ثواب نہیں رہے گا۔ وہ ایک تجارت کرچکا ہے۔ جس کا وہ نفع اٹھارہا ہے، لیکن پہلا رنگ نہ رہے گا۔ انسان میں ایک فعل تکلف سے کرتے کرتے طبیعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو طبعی طور سے لذت پاتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اُس کام سے ہٹایا جاوے۔ وہ طبعاً یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ سو اتفاقاً اور تقویٰ کی حد تک پورا اکشاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک قسم کا دعویٰ ہے۔

رہتا ہے جس سے اسکار و حانی نزول الماء دُور ہو جائے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ متقی شروع میں اندرھا ہوتا ہے۔ مختلف کوششوں اور ترکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے پس جب سوچا کھا ہو گیا اور صالح بن گیا۔ پھر ایمان بالغیب نہ رہا اور تکلف بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی **أَعْنَى** اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ مشاہدہ کرایا گیا۔ جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے، وہ تمام آپؐ کے مشاہدہ میں آگیا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اگرچہ اندرھا ہے اور تکلف کی تکلیف میں ہے لیکن صالح ایک دارالامان میں آگیا ہے اور اس کا نفس مطمئنہ ہو گیا ہے۔ متقی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے۔ وہ اندرھا دھنڈ طریق سے چلتا ہے۔ اس کو کچھ خبر نہیں ہر ایک بات پر اس کا ایمان بالغیب ہے۔ یہی اُس کا صدق ہے اور اس صدق کے مقابل خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ فلاح پائے گا:

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(البقرة: 6)

اُقامتِ صلوٰۃ

اس کے بعد متقی کی شان میں آیا ہے

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

(البقرة: 4)

یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں لفظ کھڑی کرنے کا آیا ہے۔ یہ بھی اس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے جو متقی کا خاصہ ہے۔ یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے وساوس کا اُسے مقابلہ ہوتا ہے جن کے باعث اسکی نماز گو بار بار گر پڑتی ہے جس کو اُس نے کھڑا کرنا ہے۔ جب اس نے اللہ اکابر کہا تو ایک ہجوم وساوس ہے جو اُس کے حضور قلب میں تفرق ڈال رہا ہے۔ وہ ان سے کہیں کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پریشان ہوتا ہے۔ ہر چند حضور و ذوق کیلئے اڑتا مرتا ہے لیکن نماز جو گر پڑتی ہے بڑی جان کنی سے اُسے کھڑا کرنے کی فکر میں ہے۔ بار بار ایسا کَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کر نماز کے قائم کرنے کیلئے دعا مانگتا ہے اور ایسے **الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ** کی

پیارا اور دلکش اصول

حضرت مسیح موعود ﷺ فرماتے ہیں:

یہ خدا تعالیٰ کا شکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہمارے اصول میں یہ داخل ہے کہ گزشتہ نبیوں میں سے جن کے فرقے اور تو میں اور متین بکثرت دنیا میں پھیل گئی ہیں، کسی نبی کی تکذیب نہ کریں۔ کیونکہ ہمارے اسلامی اصول کے موافق خدا تعالیٰ امفتری کو ہرگز یہ عزت نہیں بخشتا کہ وہ ایک سچے نبی کی طرح مقبول خلائق ہو کر ہزار ہزار فرقے اور تو میں اُس کو مان لیں اور اس کا دین زمین پر جم جاوے اور عمر پائے۔ لہذا ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم تمام قوموں کے نبیوں کو جنہوں نے خدا کے الہام کا دعویٰ کیا اور مقبول خلائق ہو گئے اور ان کا دین زمین پر جم گیا خواہ وہ ہندی تھے یا فارسی، چینی تھے یا عبرانی خواہ کسی اور قوم میں سے تھے درحقیقت سچے رسول مان لیں۔ اور اگر ان کی امتوں میں کوئی خلاف حق با تین پھیل گئی ہوں تو ان با توں کو ایسی غلطیاں قرار دیں جو بعد میں داخل ہو گئیں۔ یہ اصول ایک ایسا دلکش اور پیارا ہے جس کی برکت سے انسان ہر ایک قسم کی بذریعی اور بد تہذیبی سے فجع جاتا ہے۔۔۔

سواء دوستو! اس اصول کو محکم پڑو۔ ہر ایک قوم کے ساتھ زمی سے پیش آؤ۔ زمی سے عقل بڑھتی ہے اور بربادی سے گبرے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو شخص یہ طریق اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالفوں کی گالیوں اور سخت گولی پر صبر نہ کر سکے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت کی رو سے چارہ جوئی کرے۔ مگر یہ مناسب نہیں ہے کہ سختی کے مقابل پر سختی کر کے کسی مفسدہ کو پیدا کریں یہ تو وہ وصیت ہے جو ہم نے اپنی جماعت کو کر دی۔ اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے۔

(کتاب البریہ۔ روحانی خزانہ جلد نمبر 13 صفحہ 16-17)

انفاق ممن رزق اللہ

اس کے بعد متقی کی شان میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرة: 4) آیا ہے۔ یہاں متقی کیلئے مِمَّا کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اس وقت وہ ایک اعمیٰ کی حالت میں ہے، اس لئے جو کچھ خدا نے اس کو دیا، اس میں سے کچھ خدا کے نام کا دیا۔ حق یہ ہے کہ اگر وہ آنکھ رکھتا، تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ یہ ایک جواب تھا جو اتنا میں لازمی ہے۔ اس حالتِ اتنا کے تقاضے نے متقی سے خدا کے دینے میں سے کچھ دلوایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایام وفات میں دریافت فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دینار تھا۔ فرمایا کہ یہ سیرتِ یگانگت سے بعید ہے کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کے درجہ سے گزر کر صلاحیت تک پہنچ چکے تھے، اس لئے مِمَّا ان کی شان میں نہ آیا۔ کیونکہ وہ شخص اندر ہا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا، لیکن یہ لازمہ متقی تھا، کیونکہ خدا کی راہ میں دینے سے بھی اُسے نفس کے ساتھ جنگ تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ رکھا۔ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا اور اپنے لئے کچھ نہ رکھا۔ جیسے دھرم مہوتسو کے مضمون میں انسان کی تین حالتیں ذکر کی گئی ہیں جو انسان پر ابتداء سے انتہا تک وارد ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی قرآن کریم نے جو انسان کو تمام مرحل ترقی کے طے کرانے آیا، اتنا سے شروع کیا۔ یہ ایک تکلف کا راستہ ہے۔ یہ ایک خطرناک میدان ہے۔ اُس کے ہاتھ میں توار ہے اور مقابل بھی توار ہے۔ اگر نجیگی تو نجات پا گیا۔ وَإِلَّا أَسْفَلِ السَّافِلِينَ میں پڑ گیا؛ چنانچہ یہاں متقی کی صفات میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں، اسے سب کا سب خرچ کر دیتا ہے۔ متقی میں اس قدر ایمانی طاقت نہیں ہوتی جو نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہادی کامل کی طرح مکمل کا مکمل خدا کا دیا ہوا خدا کو دیدے۔ اسی لئے پہلے مختصر سائیکس لگایا گیا، تاکہ چاشنی کچھ کر زیادہ ایثار کیلئے تیار ہو جاوے۔

(جاری ہے)

حصہ اول

حضرت مسیح موعود ﷺ کی مہمان نوازی کے

ایمان افروز واقعات

(لنگرخانہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی ابتدائی شکل اور دیگر تاریخی واقعات)

حبيب الرحمن زیریوی

آدمیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک روا رکھا جاتا ہوا اول تو یہ کوئی اعتراض ہی نہیں۔ ہر شخص خواص کے مرتبہ اور مقام کا لحاظ رکھتا ہے اور یہ مسنون امر بھی ہے مگر حضرت صاحب اس قسم کا سلوک اور اہتمام بعض خاص حالتوں کے لحاظ سے فرمایا کرتے تھے مثلاً ایک طالب علم ہے وہ دماغی محنت کرتا ہے۔ اس کے لئے دماغی تقویت کے لئے دودھ درکار ہے۔ اس لئے دودھ کا انتظام کر دیا۔ پھلوں وغیرہ کے متعلق حضور کا عام التزام یہ تھا کہ پھلوں کو قریباً سب دوستوں میں تقسیم کر دیتے۔ خواہ کتنا ہی تھوڑا آئے اور کبھی کبھی شہتوں بیدانہ وغیرہ تو دوستوں کے ساتھ مل کر باغ میں کھایا کرتے تھے۔

کھانے میں آپ کبھی کوئی خاص امتیاز نہیں کیا کرتے تھے۔ جب باہر مہمانوں کے ساتھ مل کر کھاتے تو ایک ہی قسم کا کھانا سب کے آگے ہوتا تھا اور آپ بھی خاص امتیاز کو ناپسند فرماتے۔ ہاں اگر اپنے ملک کے رواج کے موافق کوئی خاص کھانا ان کی عام غذا ہو تو اس کے لئے وہی تیار ہوتا تھا۔ مثلاً جب سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ عنہ اور مکرمی سیٹھ سمعیل آدم صاحب رضی اللہ عنہ بھی سے آتے تو ان کے لئے چاول پکا کرتے تھے خواہ خشکہ کی صورت میں خواہ پلاو کی صورت میں۔ اس لئے کہ وہ لوگ اسی کے کھانے کے عادی تھے یا حیدر آباد سے کوئی آتا اس کے لئے چاول اور کھٹا سالن تیار ہوتا تھا۔

(الحکم 21 / فروری 1934ء صفحہ 4)

اکرام ضیف اخلاق میں سے ہے

حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی تحریر فرماتے ہیں:- اکرام ضیف اخلاق فاضلہ میں سے ہے اور سوسائٹی اور تمند کے لئے بمذلہ روح کے ہے لیکن ان بیانات علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمال اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کامل طور پر یہ خلق ان میں پایا جاتا ہے اور پھر اکمل و اتم صورت میں صاحب خلق عظیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام چونکہ حضور کا بروز اور مظہر ہیں اس لئے آپ میں اکرام ضیف کی شان پوری تخلی کے ساتھ نمایاں ہے اور یہ پوچھو تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے ماتحت یہ ایمان کا شمرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عملی زندگی دنیا کے سامنے پیش کرو۔ وہ ہزار دلائل سے بڑھ کر موثور ہوگی۔ اس قسم کا ایشان نفس دوسروں کے لئے ہر قسم کی قربانی کیا معمولی آدمیوں کا خاصہ ہو سکتا ہے؟

مہمان نوازی خدام اور خواص کے لئے یکساں تھی

اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے کوئی مفترض یہ کہے کہ شاید خاص

گیا ہے آپ صرف روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا کرتے تھے اور پھر انگلی کا سرا شوربے میں ترکر کے زبان سے چھوادیا کرتے تھے۔ تاکہ لفہ نمکین ہو جائے غرض آپ کو زیادہ سالن یا ترکاری کھانے کی عادت نہ تھی۔ آپ صرف اس لئے کھاتے تھے کہ قوت حاصل ہو اور آپ خدمت دین کا کام کر سکیں۔ لذت نفس آپ کے مقاصد میں داخل نہ تھی۔ اس لئے بارہا آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو کھانا کھا کر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پا تھا اور ہم نے کیا کھایا۔ آپ کا عمل سعدی کے اس مقولہ کی تشریح تھی۔

خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است

اور آپ نے سعدی کے اس شعر کو بعض تحریروں میں بیان بھی کیا۔ کم کھانے پر آپ اس حد تک قابو یافتہ تھے کہ ایک بار فرمایا اور آپ کی تحریروں میں بھی موجود ہے کہ آپ وحی الہی کی ہدایت سے متواتر روزے رکھ رہے تھے تو اس قدر کم کھایا کرتے تھے کہ آپ کو اپنے نفس پر اس قدر قابو حاصل ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک پہلو ان کو میرے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا جاوے تو قبل اس کے کہ مجھے کھانے کی حاجت ہو وہ مرجائے گا۔ آپ کو بھوک اور پیاس پر حکومت اور قدرت حاصل ہو چکی تھی۔

چونکہ آپ کا مقصد کھانے سے صرف قوت حاصل کرنا تھا نہ کہ لذت اور ذائقہ اس لئے آپ عموماً وہ چیزیں کھاتے تھے۔ جو آپ کی طبیعت کے موافق ہوتی تھیں اور جن سے دماغی قوت قائم رہے تاکہ کام میں ہرج نہ ہو۔

کھانا بد مزہ ہونے پر بھی کبھی اظہار ناراضگی نہ فرماتے

آپ نے کھانے کے بد مزہ ہونے پر کبھی اظہار ناراضگی نہیں کیا۔ جو آپ کے سامنے آجاتا آپ حسب ضرورت کھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ منتی عبد الحق صاحب لاہوری نے بمقام امرت سر کہا کہ آپ کے کھانے کے لئے خاص انتظام ہونا چاہئے اور گھر کے لوگوں کوختی سے حکم دیا جائے حضرت مولوی عبد الکریم رضی اللہ عنہ نے بھی تائید کر دی آپ نے فرمایا:-

آپ کی خوراک

حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب دسترخوان پر بیٹھتے تو آپ ایک روٹی کے دو ٹکڑے کرتے۔ پھر ایک ٹکڑے کے دو ٹکڑے کرتے اور اس طرح پر ایک ٹکڑا لے کر اس میں سے بہت چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے شوربے سے ذرامس کر کے کھاتے تھے۔

میں ذرا اسے مکمل کرنے کے لئے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب باہر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ دسترخوان بچھ جانے اور کھانا پنے جانے کے بعد آپ پوچھا کرتے کہ کیوں جی شروع کریں؟ اس سے یہ مقصد ہوتا تھا کہ کوئی مہمان رہ تو نہیں گیا یا سب کے سامنے کھانا کھا گیا ہے۔ پھر جواب ملنے پر آپ شروع فرماتے تھے۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کھانے کی مقدار بہت کم ہوتی تھی اور آپ تمام مہمانوں کے بعد تک کھاتے رہتے تھے۔ یعنی سب سے آخر میں جو شخص کھانا ختم کرتا وہ آپ کی ذات ہوتی اور یہ اس لئے کہ کوئی مہمان صرف یہ سمجھ کر کھانے سے دستکش نہ ہو جاوے کہ سب کھا چکے ہیں اور اس طرح پر بھوکانہ رہے۔ آپ کے کھانے کی مقدار بہت کم ہوتی اور آپ سالن یا ترکاری بہت ہی کم کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ کے سامنے کا پیالہ قریباً ویسا ہی ہوتا تھا اور روٹی کے ٹکڑے بھی سب سے زیادہ آپ کے سامنے سے اٹھتے تھے۔ جس کو لوگ تبرک یقین کر کے اٹھایا کرتے تھے۔ اور باہم تقسیم کرتے تھے۔

کھانا کھانے میں لذت نفس مقصود نہ تھا

آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنی ترکاری یا سالن میں سے کچھ بوٹیاں یا اور کوئی چیز روٹی پر رکھ کر بعض قریب بیٹھنے والے دوستوں کو اور بعض اوقات ان دوستوں کو بھی دے دیتے جو قریب نہیں ہوتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا

اس آگ میں جا گریں اور مسافر ہمیں بھون کر ہمارا گوشت کھائے۔ چنانچہ ان پرندوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔

(ذکر حبیب صفحہ 87,86)

آپ کا گھر بطور لنگر خانہ

حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم۔ اے تحریر فرماتے ہیں:-

ڈاکٹر میر محمد سلمعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ لنگر کا انتظام حضرت مسیح موعودؑ کے ابتدائی ایام میں گھر میں ہی تھا۔ گھر میں دال سالن پکتا اور لو ہے کے ایک بڑے توے پر جسے ”لوہ“ کہتے ہیں روٹی پکائی جاتی۔ پھر باہر مہمان کو بھیج دی جاتی۔ اس لوہ پر ایک وقت میں دو تین نوکریاں بیٹھ کر بہت سی روٹیاں یکدم پکالیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد جب باہر انتظام ہوا تو پہلے اس مکان میں لنگر خانہ منتقل ہوا جہاں اب نواب صاحب کا شہر والا مکان کھڑا ہے۔ پھر باہر مہمان خانہ میں چلا گیا۔

مہمانوں کے لئے عمدہ کھانے کا انتظام

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم۔ اے تحریر فرماتے ہیں:- بیان کیا ہم سے حافظ روشن علی صاحب نے کہ ان سے ڈاکٹر میر محمد سلمعیل صاحب نے بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ جب کوئی جلسہ وغیرہ کا موقع تھا اور ہم لوگ حضرت صاحب کے پاس بیٹھ ہوئے تھے اور مہمانوں کے لئے باہر پلااؤ زردہ وغیرہ پک رہا تھا کہ حضرت صاحب کے واسطے اندر سے کھانا آگیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت عمدہ کھانا ہو گا لیکن دیکھا تو تھوڑا سا خشک تھا اور کچھ دال تھی اور صرف ایک آدمی کی مقدار کا کھانا تھا۔ حضرت صاحب نے ہم لوگوں سے فرمایا آپ بھی کھانا کھائیں۔ چنانچہ ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ حافظ صاحب کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بیان کیا کرتے کہ اس کھانے سے ہم سب سیر ہو گئے حالانکہ ہم بہت سے آدمی تھے۔

(سیرت المهدی جلد اول صفحہ 135)

ہمارے دوستوں کو ایسا نہیں ہونا چاہئے۔

(اخبار الحکم 28 جنوری 1934 صفحہ 2)

جنگل کے پرندوں کی مہمان نوازی کا ذکر

حضرت مفتی محمد صادق صاحب روایت فرماتے ہیں:-

ایک شب کا ذکر ہے کہ کچھ مہمان آئے جن کے واسطے جگہ کے انتظام کے لئے حضرت اُمّ المؤمنین علیہ السلام ہو رہی تھیں کہ سارا مکان تو پہلے ہی کشتمی کی طرح پُر ہے۔ اب ان کو کہاں ٹھہرایا جائے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اکرام ضیف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یوں صاحبہ کو پرندوں کا ایک قصہ سنایا۔ چونکہ میں بالکل ملحوظہ کمرے میں تھا اور کوارٹروں کی ساخت پرانے طرز کی تھی۔ جن کی اندر سے آواز بسانی دوسرا طرف پہنچتی رہتی ہے۔ اس واسطے میں نے اس سارے قصہ کو سننا۔

فرمایا، دیکھو ایک دفعہ جنگل میں ایک مسافر کو شام ہو گئی۔ رات اندر ہیری تھی۔ قریب کوئی بستی اسے دکھائی نہ دی اور وہ ناچار ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے واسطے بیٹھ رہا۔ اس درخت کے اوپر ایک پرندے کا آشیانہ تھا۔ پرندہ اپنی مادہ کے ساتھ با تین کرنے لگا کہ دیکھو یہ مسافر جو ہمارے آشیانہ کے نیچے زمین پر آبیٹھا ہے یا آج رات ہمارا مہمان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ مادہ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا اور ہر دو نے مشورہ کر کے یہ قرار دیا کہ ٹھنڈی رات ہے اور اس ہمارے مہمان کو آگ تاپنے کی ضرورت ہے اور تو کچھ ہمارے پاس نہیں۔ ہم اپنا آشیانہ ہی توڑ کر نیچے پھینک دیں تاکہ وہ ان لکڑیوں کو جلا کر آگ تاپ لے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سارا آشیانہ تنکا کر کے نیچے پھینک دیا۔ اس کو مسافر نے غنیمت جانا اور ان سب لکڑیوں کو تنکوں کو جمع کر کے آگ جلائی اور تاپنے لگا۔ تب درختوں پر اس پرندوں کے جوڑے نے پھر مشورہ کیا کہ آگ ہم نے اپنے مہمان کو بھی پکنچائی اور اس کے واسطے سیکنے کا سامان مہیا کیا۔ اب ہمیں چاہئے کہ اسے کچھ کھانے کو بھی دیں اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہم خود ہی

حضرت صاحب کے واسطے ایک مرغ لایا۔ میں نے حضرت صاحب کے واسطے اس کا پلاو تیار کروایا تھا مگر اسی دن اتفاق ایسا ہوا کہ نواب صاحب نے اپنے گھر میں دھونی دلوائی تو نواب صاحب کے بیوی بچے بھی ادھر ہمارے گھر آگئے اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ ان کو بھی کھانا کھلاؤ۔ میں نے کہا کہ چاول تو بالکل ہی تھوڑے ہیں صرف آپ کے واسطے تیار کروائے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا چاول کہاں ہیں۔ پھر حضرت صاحب نے چاولوں کے پاس آ کر ان پر دم کیا اور کہا اب تقسیم کردو۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ ان چاولوں میں ایسی برکت ہوئی کہ نواب صاحب کے سارے گھر نے کھائے اور پھر بڑے مولوی صاحب (یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب[ؒ]) اور مولوی عبدالکریم صاحب کو بھی بھجوائے گئے اور قادیانی میں اور بھی کئی لوگوں کو دیئے گئے اور چونکہ وہ برکت والے چاول مشہور ہو گئے تھے اس لئے کئی لوگوں نے آکر ہم سے مانگے اور ہم نے تھوڑے تھوڑے تقسیم کئے اور وہ سب کے لئے کافی ہو گئے۔

(سیرت طیبہ صفحہ 302-303)

پکڑی کے کپڑا میں کھانا باندھ کر دینا

”حضرت مفتی محمد صادق صاحب[ؒ] نے بیان کیا کہ جب میں قادیان سے واپس لا ہو رجایا کرتا تھا تو حضرت صاحب اندر سے میرے لئے ساتھے جانے کے واسطے کھانا بھجوایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب میں شام کے قریب قادیان سے آنے لگا تو حضرت صاحب نے اندر سے میرے واسطے کھانا منگایا۔ جو خادم کھانا لایا وہ یونہی کھلا کھانا لے آیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کھانا کس طرح ساتھے لے جائیں گے کوئی رومال بھی تو ساتھ لانا تھا جس میں کھانا باندھ دیا جاتا۔ اچھا میں کچھ انتظام کرتا ہوں اور پھر آپ نے اپنے سرکی پکڑی کا ایک کنارہ کا ٹکڑا اچھاڑا اور اس میں وہ کھانا باندھ دیا۔“

(الحکم 28 جنوری 1934ء صفحہ 3)

کھانے میں برکت

اسی طرح آپ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنواری[ؒ] نے کہ ایک دفعہ حضرت مسح موعود نے چند مہماں کی دعوت کی اور ان کے واسطے گھر میں کھانا تیار کروایا۔ مگر عین جس وقت کھانے کا وقت آیا تھے ہی اور مہماں آگئے اور مسجد مبارک مہماں سے بھرگئی۔ حضرت مسح موعود علیہ السلام نے اندر کھلا بھیجا اور مہماں آگئے ہیں کھانا زیادہ بھجواؤ۔ اس پر بیوی صاحبہ نے حضرت مسح موعود علیہ السلام کو اندر بلوا بھیجا اور کہا کہ کھانا تو تھوڑا ہے، صرف ان چند مہماں کے مطابق پکایا گیا تھا جن کے واسطے آپ نے کھانا تھا مگر شاید باقی کھانے کا تو کچھ کھنچ تان کر انتظام ہو سکے گا لیکن زردہ تو بہت ہی تھوڑا ہے اس کا کیا کیا جاوے۔ میرا خیال ہے کہ زردہ بھجواتی ہی نہیں۔ صرف باقی کھانا نکال دیتی ہوں۔ حضرت مسح موعود علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ مناسب نہیں۔ تم زردہ کا برتن میرے پاس لاو۔ چنانچہ حضرت صاحب نے اس برتن پر رومال ڈھانک دیا اور پھر رومال کے نیچے اپنا ہاتھ گزار کر اپنی انگلیاں زردہ میں داخل کر دیں اور پھر کہا اب تم سب کے واسطے کھانا نکالو خدا برکت دے گا۔ چنانچہ میاں عبداللہ صاحب[ؒ] کہتے ہیں کہ زردہ سب کے واسطے آیا اور سب نے یہ کھایا اور سب سیر ہو گئے۔

کھانے پر دم کرنا

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب[ؒ] بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جان[ؒ] نے فرمایا:-

ایسے واقعات بارہ ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کس طرح والدہ صاحبہ نے فرمایا یہ کہ تھوڑا کھانا تیار ہوا اور پھر مہماں زیادہ آگئے۔ مثلاً پچاس کا کھانا ہوا تو سو آگئے لیکن وہی کھانا حضرت صاحب کے دم سے کافی ہو جاتا رہا۔ پھر حضرت والدہ صاحبہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ کوئی شخص

میاں نظام الدین صاحب کے ساتھ کھانا کھانے کا واقعہ

حضرت مشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی بیان کرتے ہیں۔ ”ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعودؑ مغرب کے بعد مسجد مبارک کی دوسری چھت پر مع پندرہ احباب کھانا کھانے کے لئے تشریف فرماتھے۔ ایک احمدی میاں نظام الدین ساکن لدھیانہ جو بہت غریب آدمی تھے اور ان کے کپڑے بھی دریدہ تھے۔ حضرت مسیح موعودؑ سے چار پانچ آدمیوں کے فالصلہ پر بیٹھے۔ اتنے میں کئی دیگر اشخاص خصوصاً وہ لوگ جو بعد میں لاہوری کھلانے، آتے گئے اور آپ کے قریب بیٹھتے گئے۔ جس کی وجہ سے میاں نظام الدین کو پرے ہنڈا پر تارہ باختی کو وہ جو تیوں کی جگہ تک پہنچ گئے۔ اتنے میں کھانا آیا تو آپ نے ایک سالن کا پیالہ اور کچھ روٹیاں ہاتھ میں اٹھائیں اور میاں نظام الدین کو مخاطب کر کے فرمایا آؤ میاں نظام الدین صاحب ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا لھائیں اور یہ فرمات کر مسجد کے صحن کے ساتھ جو کوٹھری ہے اس میں تشریف لے گئے اور حضرت صاحب نے اور میاں نظام الدین نے کوٹھری کے اندر ایک پیالہ میں کھانا کھایا اور کوئی اندر نہیں گیا۔ جو لوگ قریب آ کر بیٹھتے گئے تھے ان کے چہروں پر شرمندگی ظاہر تھی۔“

(سیرت طیبہ صفحہ 188)

مہمان کو اپنا لحاف دے دیا

حضرت مشی ظفر احمد صاحب بیان فرماتے ہیں:- ایک دفعہ جلسہ سالانہ پر بہت سے آدمی آئے جن کے پاس کوئی پارچہ سرمائی نہ تھا۔ ایک شخص نبی بخش نمبردار ساکن بٹالہ نے اندر سے لحاف بچھونے منگوانے شروع کئے اور مہمانوں کو دیتا رہا۔ میں عثناء کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بغلوں میں ہاتھ دیئے بیٹھے تھے اور ایک صاحزادہ جو غالباً حضرت خلیفۃ المسیح الشاذی تھے پاس لیئے تھے اور ایک شتری چوغہ نہیں اور ہمارا کھا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے بھی اپنا لحاف بچھونا طلب کرنے پر مہمانوں کے لئے بھیج دیا تھا۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے پاس کوئی پارچہ نہیں رہا اور سردی بہت ہے فرمانے

مہمان کی خاطرداری

حضرت مرزا بشیر احمد صاحبؓ ایم۔ اے تحریر فرماتے ہیں:- ”قاضی محمد یوسف صاحب، پشاور نے مجھ سے بذریعہ خط بیان کیا کہ ایک دفعہ میں اور عبدالرحیم خان صاحب پسروالی غلام حسن خان صاحب پشاوری مسجد مبارک میں کھانا کھا رہے تھے جو حضرت صاحب کے گھر سے آیا تھا۔ ناگاہ میری نظر کھانے میں ایک مکھی پر پڑی۔ چونکہ مجھے مکھی سے طبعاً نفرت ہے میں نے کھانا ترک کر دیا۔ اس پر حضرت کے گھر کی ایک خادمہ کھانا اٹھا کر واپس لے گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت حضرت صاحب اندر وون خانہ کھانا تناول فرمائے تھے۔ خادمہ پاس سے گزری تو اس نے حضرت صاحب سے یہ ماجرا عرض کر دیا۔ حضرت صاحب نے فوراً اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر اس خادمہ کے حوالے کر دیا کہ یہ لے جاؤ اور اپنے ہاتھ کا نوالہ بھی برتن ہی میں چھوڑ دیا۔ وہ خادمہ خوش خوش ہمارے پاس وہ کھانا لائی اور کہا کہ لوحضرت صاحب نے اپنا تبرک دے دیا ہے۔ اس وقت مسجد میں سید عبدالجبار صاحب بھی جو گزشتہ ایام میں کچھ عرصہ بادشاہ سوات بھی رہے ہیں، موجود تھے۔ چنانچہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔“

(سیرت المهدی جلد اول صفحہ 309)

مہمان کی خواہش پوری کرنا

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحبؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ اوائل میں حضرت مسیح موعودؑ مدقائق دونوں وقت کا کھانا مہمانوں کے ہمراہ باہر کھایا کرتے تھے۔ کبھی پلااؤ اور زردہ پکتا تو مولوی عبدالکریم صاحب ان دونوں چیزوں کو ملا لیا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر فرماتے کہ ہم تو ان دونوں کو ملا کر نہیں کھا سکتے۔ کبھی مولوی صاحب کھانا کھاتے ہوئے کہتے کہ اس وقت اچار کو دل چاہتا ہے اور کسی ملازم کی طرف اشارہ کرتے تو حضرت صاحب فوراً دست خوان پر سے اٹھ کر بیت الفکر کی کھڑکی میں سے اندر چلے جاتے اور اچار لے آتے۔

مہمانوں کو بٹالہ والی نہر تک چھوڑنے تشریف لے جایا کرتے تھے

حضرت مشی ظفر احمد صاحبؒ بیان فرماتے ہیں:-

”ایک دفعہ میں قادیان سے رخصت ہونے لگا اور حضرت بانی سلسلہؐ نے اجازت دی۔ پھر فرمایا کہ ٹھہر جائیں۔ آپ دودھ کا گلاس لے آئے اور فرمایا پی لیں۔ شیخ رحمت اللہ صاحبؒ بھی آگئے۔ پھر ان کے لئے بھی حضرت صاحب دودھ کا گلاس لائے اور پھر نہر تک ہمیں چھوڑنے کے لئے تشریف لائے اور بہت دفعہ نہر تک ہمیں چھوڑنے کے لئے تشریف لاتے۔“

(اصحاب احمد جلد چہارم صفحہ 134)

مہمانوں کی عادت اور پسند کا خیال رکھنا

ایک اور روایت میں حضرت مشی ظفر احمد صاحبؒ کپور تھلویؒ بیان کرتے ہیں:-

”میں قادیان میں مسجد مبارک سے ملحق کرے میں ٹھہر اکرتا تھا۔ میں ایک دفعہ سحری کھارا تھا۔ حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ دیکھ کر فرمایا آپ دال سے روٹی کھارے ہیں؟ اور اسی وقت منتظم کو بلا یا اور فرمانے لگے کہ آپ سحری کے وقت دوستوں کو ایسا کھانا دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے جس قدر احباب ہیں وہ سفر میں نہیں۔ ہر ایک سے دریافت کرو کہ ان کو کیا کیا چیز کھانے کی عادت ہے اور وہ سحری کو کیا کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ ویسا ہی کھانا ان کے لئے تیار کیا جائے۔ پھر منتظم میرے لئے کھانا لا یا مگر میں کھانا کھا چکا تھا۔“

(اصحاب احمد جلد چہارم صفحہ 141)

حضرت مرزا بشیر احمد صاحبؒ ایم۔ اے اپنی کتاب سلسلہ احمدیہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی سے متعلق تحریر فرماتے ہیں:-

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت نہایت درجہ مہمان نواز تھی اور جو لوگ

لگے مہمانوں کو تکلیف نہیں ہوئی چاہئے اور ہمارا کیا ہے رات گزر جائے گی۔ نیچے آ کر میں نے نبی بخش نمبردار کو بہت برا بھلا کہا کہ تم حضرت صاحب کا لحاف بچونا بھی لے آئے۔ وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ جس کو دے چکا ہوں اس سے کس طرح واپس لوں۔ پھر میں مفتی فضل الرحمن صاحب یا کسی اور سے ٹھیک یا دنہیں رہا لحاف بچونا مانگ کر اوپر لے گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی اور کو دے دو مجھے تو اکثر نیند بھی نہیں آیا کرتی اور میرے اصرار پر بھی آپ نے نہ لیا اور فرمایا کسی مہمان کو دے دو پھر میں لے آیا۔

(اصحاب احمد جلد چہارم صفحہ 126)

خدمام کی دلداری کا خیال

حضرت مشی ظفر احمد صاحبؒ کپور تھلویؒ بیان فرماتے ہیں:-

حضرت صاحبؒ کو اپنے خدام کی دلداری کا بہت بڑا خیال رہتا تھا اور آپ ان کے لئے خود اپنی ذات سے ہر قسم کی قربانی اور ایثار کا عملًا اظہار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور میرا صافہ سر صاف نہ تھا۔ اس لئے کہ جب کبھی ہم آتے تھے تو ایک آدھ دن کی فرصت نکال کر آتے لیکن جب یہاں آتے اور حضرت صاحبؒ قیام کا حکم دے دیتے تو پھر ہمیں ملازمت کے چلے جانے کا بھی خیال نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح عید کا دن آگیا اور میں ایک ہی صاف لے کر آیا تھا اور وہ میلا ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ بازار سے جا کر خرید لاؤں۔ چنانچہ میں بازار کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا اور آپ کی فرست توشخدا دھی پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ عید کا دن ہے میرا صافہ میلا ہے میں بازار سے خریدنے جا رہا ہوں۔ اسی وقت وہاں ہی کھڑے اپنا عمامہ شریف اتنا کر مجھے دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کو پسند ہے؟ آپ لے لیں۔ میں دوسرا باندھ لیتا ہوں۔ مجھ پر اس محبت اور شفقت کا جواہر ہوا الفاظ اسے ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے نہایت احترام کے ساتھ اس عمامہ کو لے لیا اور آپ بے تکلف گھر تشریف لے گئے اور دوسرا عمامہ باندھ کر آگئے۔

(اصحاب احمد جلد چہارم صفحہ 150، 151)

کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو اُم آئے کہ سُبَّحَانَ اللَّهِ کیا اخلاق ہیں۔ یہ خدا کا بُرگزیدہ اپنے ادنیٰ خادموں تک کی خدمت اور دلداری میں کتنی لذت پاتا اور کتنی تکلیف اٹھاتا ہے!!۔

اس واقعہ سے مسح کے جذبہ مہمان نوازی کا کسی قدر اندازہ ہو سکتا ہے۔

(سیرت طیبہ صفحہ 69:70)

مہمانوں کا سامان خود یکہ سے اتنا رنا

حضرت مشی ظفر احمد صاحبؒ کپوری تھلوی روایت کرتے ہیں:-

”ایک دفعہ شخص منی پور آسام سے قادیان آئے اور مہمان خانہ کے پاس پہنچ کر لنگر خانہ کے خادموں کو اپنا سامان اتنا رنے اور چار پائی بچھانے کو کہا۔ لیکن ان خدام کو اس طرف فوری توجہ نہ ہوئی اور وہ ان مہمانوں کو یہ کہہ کر دوسرا طرف چلے گئے کہ آپ یکہ سے سامان اتنا ریں چار پائی بھی آجائے گی۔ ان تھکے ماندے مہمانوں کو یہ جواب ناگوار گزرا اور وہ رنجیدہ ہو کر اسی وقت بیالہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ مگر جب حضرت صاحبؒ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نہایت جلدی ایسی حالت میں کہ جوتا پہننا بھی مشکل ہو گیا ان کے پیچھے بیالہ کے رستہ پر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چل پڑے۔ چند خدام بھی ساتھ ہوئے۔ حضرت مشی ظفر احمد صاحبؒ روایت کرتے ہیں کہ میں بھی ساتھ ہو گیا۔ حضرت صاحب اس وقت اتنی تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے گئے کہ قادیان سے اڑھائی میل پر نہر کے پل کے پاس انہیں جالیا اور بڑی محبت اور معذرت کے ساتھ اصرار کیا کہ واپس چلیں اور فرمایا آپ کے واپس چلے جانے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ آپ یکہ پرسوار ہو جائیں میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ مگر وہ احترام اور شرمندگی کی وجہ سے سوار نہ ہوئے اور آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر قادیان واپس آگئے اور مہمان خانہ میں پہنچ کر ان کا سامان اتنا رنے کے لئے آپ نے اپنا ہاتھ یکہ کی طرف بڑھایا مگر خدام نے آگے بڑھ کر سامان اتنا لیا۔ اس کے بعد حضرت صاحب ان کے پاس

جلسہ کے موقعہ پر یادوسرے موقعوں پر قادیان آتے تھے خواہ وہ احمدی ہوں یا غیر احمدی وہ آپ کی محبت اور مہمان نوازی سے پورا پورا حصہ پاتے تھے اور آپ کو ان کے آرام و آسائش کا از حد خیال رہتا تھا۔ آپ کی طبیعت میں تکلف بالکل نہیں تھا اور ہر مہمان کو ایک عزیز کے طور پر ملتے تھے اور اس کی خدمت اور مہمان نوازی میں دلی خوشی پاتے تھے۔

اوائل زمانہ کے آنے والے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا تو آپ ہمیشہ اسے مسکراتے ہوئے چہرہ سے ملتے، مصافحہ کرتے، خیریت پوچھتے، عزت کے ساتھ بٹھاتے، گرمی کا موسم ہوتا تو شربت بنا کر پیش کرتے، سردیاں ہوتیں تو چائے وغیرہ تیار کروائے لاتے، رہائش کی جگہ کا انتظام کرتے اور کھانے وغیرہ کے متعلق مہمان خانہ کے منتظمین کو خود بلا کرتا کید فرماتے کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔

(سلسلہ احمدیہ جلد اول صفحہ 43)

ایک دوسری روایت میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحبؒ ایم۔ اے سیرہ طیبہ میں یہ تحریر فرماتے تھے:

ایک بہت شریف اور بڑے غریب مزانج احمدی سیٹھی غلام نبی صاحب ہوتے تھے جو رہنے والے تو چکوال کے تھے مگر راولپنڈی میں دکان کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں حضرت مسیح موعودؑ کی ملاقات کے لئے قادیان آیا۔ سردی کا موسم تھا اور کچھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں شام کے وقت قادیان پہنچا تھا۔ رات کو جب میں کھانا کھا کر لیٹ گیا اور کافی رات گزر گئی اور قریباً بارہ بجے کا وقت ہو گیا تو کسی نے میرے کمرے کے دروازہ پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت مسیح موعودؑ کھڑے تھے۔ ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھیں تھیں۔ میں حضور کو دیکھ کر گھبرا گیا مگر حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا کہیں سے دودھ آ گیا تھا میں نے کہا آپ کو دے آؤں۔ آپ یہ دودھ پی لیں۔ آپ کو شاید دودھ کی عادت ہو گی اس لئے یہ دودھ آپ کے لئے لایا ہوں۔ سیٹھی صاحب کہا

ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ خدا کا پاک مسٹح میرے جیسے نابارکی خدمت کرتا ہے۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے۔ اصل میں انبیاء دنیا کی خدمت کے لئے آتے ہیں۔ وہ دنیا کے لئے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ تاکہ لوگ ان کے اسوہ سبق حاصل کریں۔

(اخبار الحکم 14، 21 نومبر 1936 صفحہ 3)

مہمانوں سے حسن سلوک

حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحبؒ فرماتے ہیں:

”مہمان خانہ کے متعلق مجھے ایک بات یاد آگئی کہ ایک حافظ حامد علی صاحب تھے۔ ایک دفعہ ایک مہمان آئے۔ حضرت صاحب نے حکم دیا کہ ان کو لحاف دے دیا جائے۔ تو حافظ صاحب نے کہا نہیں حضور یہ لحاف لے کر بھاگ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں دے دو۔ اگر یہ لے گیا تو اس کا وباں اس پر ہے۔ ہم پر تو نہیں۔“

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک نہایت خوبصورت حمائل تھی۔ ایک مہمان آئے۔ انہوں نے وہ حمائل مجھ سے مانگی۔ میں نے ان کو دے دی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ اما السائل فلا تنہر۔“

مہمانوں کے ساتھ محبت اور بے تکلفی

حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانیؒ تحریر فرماتے ہیں:

”آپ اکرام ضیف کی نہ صرف تاکید فرماتے بلکہ عملًا اس کا سبق دیا کرتے۔ بارہا ایسا ہوا کہ جب کوئی مہمان آیا۔ تو آپ بہ نفس نفس اس کے لئے موسم کے لحاظ سے چائے یا سی وغیرہ خود اٹھا کر بے تکلفی سے لے لائے اور اصرار کر کے پلا یا۔ ایسا بھی ہوتا کہ کوئی دوست قادیان سے ایام اقامت پورے کر کے رخصت ہوتا۔ تو آپ اس کے لئے راستہ کے لئے ناشتہ وغیرہ لے کر آ جاتے تو لوگوں کی خدمت کے لئے آئے ہیں۔ آپ اس قدر پریشان کیوں ہوتے

بیٹھ کر محبت اور دلداری کی گفتگو فرماتے رہے اور کھانا وغیرہ کے متعلق بھی پوچھا کہ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور کسی خاص کھانا کھانے کی عادت تو نہیں؟ اور جب تک کھانا بن نہ گیا حضور ان کے پاس بیٹھے ہوئے بڑی شفقت کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔

دوسرے دن جب یہ مہمان واپس روانہ ہونے لگے تو حضرت صاحب نے دودھ کے دو گلاس منگو اکران کے سامنے بڑی محبت سے پیش کئے اور پھر دو اڑھائی میل پیدل چل کر بٹالہ کے رستے والی نہر تک چھوڑنے کے لئے ان کے ساتھ گئے اور اپنے سامنے یکہ پرسوار کراکے واپس تشریف لائے۔

(اصحاب احمد جلد چہارم صفحہ 112، 113)

اسی عظیم خلق کے نتیجے میں لنگرخانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بنیاد رکھی گئی۔ لنگرخانہ کی تاریخ کا مطالعہ غیر معمولی طور پر ایمان کی تازگی کے سامان مہیا کرتا ہے۔

مہمانوں کو خود گھر سے کھانا لا کر پیش کرنا

حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحبؒ روایت فرماتے ہیں:

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دوستوں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں حضور کی ملاقات کے لئے قادیان آیا۔ میں نے مسجد مبارک میں حضور سے ملاقات کی۔ باتیں کرتے رہے فرمانے لگے۔ مفتی صاحب آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ میں آپ کے لئے کھانا لاتا ہوں۔ میں نے سمجھا اندر سے کسی خادمہ کے ہاتھ کھانا بھیج دیں گے۔ حضور ایک کھڑکی میں سے تشریف لایا کرتے تھے۔ جو کہ مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ چند منٹ کے بعد وہ کھڑکی کھلی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور خود مجمع اٹھائے ہوئے ہیں۔ جس میں سالن اور روئی رکھی ہوئی تھی آئے، بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا مفتی صاحب آپ روتے کیوں ہیں۔ ہم تو اپنے دوستوں کی اس لئے خدمت کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے دوستوں کی خدمت کریں اور ہم تو لوگوں کی خدمت کے لئے آئے ہیں۔ آپ اس قدر پریشان کیوں ہوتے

مہمان کو اپنی چارپائی دے دینا

حضرت جناب پیر سراج الحق صاحب رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں:

اب میں واقعہ لکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے لئے جو ایک چارپائی حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دے رکھی تھی۔ جب مہمان آتے تو میری چارپائی پر بعض صاحب لیٹ جاتے اور میں مصلی زمین پر بچھا کر لیٹ جاتا اور جو میں بستر چارپائی پر بچھا لیتا۔ تو بعض مہمان اسی چارپائی بستر شدہ پر لیٹ جاتے۔ میرے دل میں ذرہ بھر بھی رنج یا ملال نہ ہوتا اور میں سمجھتا کہ یہ مہمان ہیں اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور بعض صاحب میرا بستر چارپائی کے نیچے زمین پر بچھیک دیتے اور آپ اپنا بستر بچھا کر لیٹ جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا۔ تو حضرت اقدس علیہ السلام کو ایک عورت نے خبر دے دی کہ پیر صاحب زمین پر لیٹے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا چارپائی کہاں گئی۔ اس نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں۔ آپ فوراً باہر تشریف لائے اور گول کمرہ کے سامنے مجھے بلا یا کہ زمین پر کیوں لیٹ رہے ہو۔ برسات کا موسم ہے اور سانپ بچھو کا خطرہ ہے۔ میں نے سب حال عرض کیا کہ ایسا ہوتا ہے اور میں کسی کو بچھنہیں کہتا۔ آخر ان لوگوں کی تواضع اور خاطر و مدارت ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سن کر آپ اندر گئے اور ایک چارپائی میرے لئے بھجوادی۔ ایک روز تو وہ چارپائی میرے پاس رہی۔ آخر پھر ایسا ہی معاملہ ہونے لگا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ پھر کسی نے آپ سے کہہ دیا۔ پھر آپ نے اور چارپائی بھجوادی۔ پھر ایک روز کے بعد وہی معاملہ پیش آیا۔ پھر آپ کو کسی نے اطلاع دی اور صبح کی نماز کے بعد مجھ سے فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب! بات تو یہی ہے جو کہ تم کرتے ہو اور ہمارے احباب کو ایسا ہی کرنا چاہئے لیکن تم ایک کام کرو۔ ہم ایک زنجیر لگا دیتے ہیں۔ چارپائی میں زنجیر باندھ کر چھٹ سے لٹکا دیا کرو۔ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم رضی اللہ عنہ یہ سن کر نہیں پڑے اور کہنے لگے کہ ایسے بھی استاد آتے ہیں کہ جو اس کو بھی اتار لیں گے۔ پھر آپ بھی ہنسنے لگے۔

(الحکم 21، اگست 1938ء صفحہ 4)

یا موسم کے لحاظ سے دودھ وغیرہ لے کر آتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ تربیت کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح سے جو کہ اس وقت بچے تھے اٹھوا کر لاتے۔

عام طور پر اپنی تقریروں میں مجلسوں میں فرماتے رہتے کہ ما انما من المتكلفین۔ ہمارے مہمانوں میں سے جو تکلف کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے جو ضرورت ہو اسے کہہ دیا کرو۔ آپ جب باہر کھانا کھایا کرتے تھے تو سب سے آخر تک کھاتے رہتے اور بہت ہی کم کھاتے تھے۔ سب سے آخر تک اس لئے کھاتے رہتے کہ اگر کوئی نیا مہمان کسی وجہ سے کھانے میں حیا کرتا ہے تو یہ سمجھ کر کہ حضور کھار ہے ہیں، ہاتھ نہ اٹھا لے۔ مہمانوں کی خاطرداری میں آپ کے اخلاقی خوارق بے حد ہیں۔ ایک مرتبہ ضلع جہلم کے دو شخص جو بہت ہی ضعیف العمر تھے حاضر ہوئے۔ آپ سیر کو تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ چل نہیں سکتے تھے۔ وہاں ہی کھڑے ہو گئے اور دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب دیکھا کہ ان کے دل کے کنوں کھل گئے ہیں اور انہوں نے سعادت کبری حاصل کر لی۔ تو آپ نے ان کو ٹھہر نے کا حکم دیا اور آپ معمولاً سیر کو چلے گئے۔

ہماری جماعت کا اصول ہی بے تکلفی ہے

گوردا سپور مقدمات کے سلسلہ میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ بابا ہدایت اللہ صاحب جو پنجابی کے بڑے مشہور شاعر تھے۔ انہوں نے اجازت چاہی۔ آپ نے ان کو فرمایا آپ جا کر کیا کریں گے۔ اگر کوئی تکلیف ہو تو بتا دو۔ اس کا انتظام کر دیا جاوے۔ پھر اس کے بعد عام طور پر آپ نے جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، چونکہ آدمی بہت ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ کسی کی ضرورت کا علم نہ ہو اس لئے ہر شخص کو چاہئے کہ جس شے کی اسے ضرورت ہو وہ بے تکلف کہہ دے اور اگر جان بوجھ کر چھپتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ ہماری جماعت کا اصول ہی بے تکلفی ہے اور بابا ہدایت اللہ صاحب کو مولوی سید سرور شاہ صاحب کے سپرد کر دیا کہ آپ ان کی ضروریات اور آرام کا لحاظ رکھیں۔

(الحکم 28، مارچ، 1936ء صفحہ 3)

کے بعد جب حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میرے واسطے چار پائی نہیں تو مجھے فرمایا کہ آپ کے واسطے چار پائی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نہیں اور ویسے کوئی ضرورت بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں تمہارے لئے چار پائی لاتا ہوں۔ حضور خود مسجد مبارک کے نیچے تشریف لے گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں یہ سمجھ کر کہ یہ مکان مردانہ معلوم ہوتا ہے۔ میں خود جھانک کر دیکھوں۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ مکان کے اندر ایک شخص چار پائی بن رہا ہے اور مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں چراغ پکڑا ہوا ہے اور آپ پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ دیکھتے ہی کوڈ کر حاضر خدمت ہوا اور چراغ حضور کے دست مبارک سے لے لیا اور عرض کیا کہ حضور میں خود بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اب ایک دو پھرے رہتے ہیں بن گئی ہے۔ چنانچہ وہ چار پائی حضور نے مجھے دی اور ہم سب نے آرام سے رات گزاری۔ اس بات کا مجھ پر گہرا اثر ہوا اور ایمان میں ترقی کا موجب بنا۔“

آپ سادگی لپسند تھے

حضرت مولوی شیر علی صاحبؒ کی روایت ہے:

”میں بچپن میں ہی سلسلہ میں داخل ہوا تھا۔ میں سینڈ ائیر کلاس لاہور میں پڑھتا تھا۔ تو وہاں سے حضرت مفتی صاحب اور مرتضیٰ ایوب بیگ صاحب عید کے موقعہ پر قادیان تشریف لائے تو میں بھی ان کے ساتھ قادیان چلا آیا۔ ہم دس بجے رات کے بیالہ پہنچے اور رات ہی رات چل کر قادیان آگئے اور حضرت خلیفۃ المسیح اولؑ کے مطب کی ایک کوٹھڑی میں ہم نے قیام کیا اور زمین پر ہی سور ہے اگلے دن عید اور جمعہ دونوں کا اجتماع تھا۔ ان دونوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہماںوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جبکہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں سالن ہوتا تھا اور آب خوروں میں پانی پیتے تھے۔

حضور کا دستور تھا کہ جب تک لوگ کھاتے رہتے۔ آپ بھی آہستہ آہستہ کھانا تناول فرمانے میں مصروف رہتے۔ مگر نہایت کم کھاتے تھے۔ اس دن عید کے

مہماںوں کو بیالہ سٹیشن پر کھانا پہنچانا

حضرت مشیٰ چراغ الدین صاحبؒ آف بیالہ تحریر فرماتے ہیں:

ہم نے چونکہ جانا تھا۔ لنگر کے انتظام کے مطابق کھانا کھالیا۔ مگر چونکہ حضرت اقدسؐ کو کپور تحلہ کی جماعت سے خاص انس تھا۔ اس لئے حضور علیہ السلام نے اس جماعت کے لئے اس دن پلاو تیار کروایا تھا۔ جب وہ تیار ہوا۔ تو حضورؐ نے کسی سے فرمایا کہ جماعت کپور تحلہ کو کھلا دو اس شخص نے عرض کیا۔ حضور وہ تو چلے گئے ہیں۔ فرمایا:

یکہ پر کھانا بیالہ لے جاؤ۔ جب وہ سٹیشن پر پہنچیں۔ تو کھانا پیش کر دو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا آدمی یکہ پر کھانا لے کر ہمارے پاس سے گزر گیا۔ مگر ہمیں علم نہ ہوا۔ جب ہم سٹیشن پر پہنچے۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف سے کھانا پہلے سے موجود تھا۔ حضور کے آدمی نے کہا کہ کھانا کھالیں۔ ہم جیران ہوئے کہ یہ کھانا کھاں سے آیا۔ اس پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔

لنگر خانہ کے ٹکڑوں میں برکت

حضرت مشیٰ چراغ الدین صاحبؒ آف بیالہ تحریر فرماتے ہیں:

ہم اس زمانہ میں لنگر کے ٹکڑے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اگر کسی کو پیٹ میں درد ہوتی تھی۔ تو وہ کوٹ کر کھلا دیتے تھے اور اور پر سے گرم پانی پلا دیتے تھے۔ میریض کو آرام آ جاتا تھا۔

(اخبار الحکم 14، جنوری 1943ء، صفحہ 3)

مہماں کے لئے رات کوئی چار پائی تیار کروانا

حضرت بابو غلام محمد صاحبؒ لدھیانہ تحریر فرماتے ہیں:

”غرض شام ہو گئی اور نماز مغرب ہم سب نے پڑھی اور ہم سب کے لئے بسترے اور چار پائیوں کا انتظام ہو گیا مگر میرے لئے کوئی چار پائی نہ رہی۔ نماز

نے مرچ متوسط رکھنے کے متعلق بہت تاکید فرمائی۔“

(الحکم 14 جون 1935 صفحہ 5)

بیشراول کا عقیقہ

حضرت میاں خیر الدین صاحب سیکھو انی روایت فرماتے ہیں:

”بیشراول کا جب عقیقہ ہوا تو حضور نے بہت سے دوستوں کو بلایا۔ ہم کو بھی جب علم ہوا تو ہم بھی آگئے۔ چونکہ ہمارے یہاں رشتہ دار تھے اس لئے ہم نے ان کے ہاں کھانا کھایا اور دعوت میں شریک نہ ہوئے۔ کیونکہ یہی ہمارا دستور تھا۔

ہمارے رشتہ داروں کے ہمسایوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ آتے تو مرتضیٰ صاحب کے پاس ہیں لیکن کھانا ان کے (رشتہ داروں) کے گھر کھاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے کانوں تک بھی پہنچ گئی مگر ہم خاموش رہے۔

دوسری دفعہ جب ہم قادیان آئے غالباً دوسرے ہی دن آگئے تھے اور حضرت اقدس سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے مہمان ہو۔ ہمارے گھر کے سوا کہیں کھانا نہ کھایا کرو۔ اس دن سے ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ہاں کھانا کھانا چھوڑ دیا۔

حضور کا کرم

ایک روز اتفاقی طور پر میں قادیان آگیا اور گول کمرے میں حاضر ہو گیا۔ کھانا کھانے کی تیاری تھی۔ مجھے علم نہیں تھا۔ دستِ خوان بچھ گیا۔ چند بابر کے مہمان موجود تھے۔ حضور نے مجھے بھی کھانے کے لئے بٹھایا۔ اس روز پلاو پکا ہوا تھا۔ ایک رکابی زائد تھی۔ حضور نے وہ رکابی میرے سامنے رکھ دی۔ مہمان دوست میری طرف دیکھنے لگے ایک دیہاتی آدمی کی طرف حضور کا انتخیال ہے۔

ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ جب میں حاضر ہوا ان دونوں میاں غلام مجی الدین صاحب کھانا کھلاتے تھے۔ وہ وقت کھانے کا تھا۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا

روز راجہ شیر محمد صاحب جو میرے دوست اور کلاس فیلو میرے ساتھ تھے۔ ہم بیٹھے باقیں کر رہے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف فرماتے۔ مجھے آپ کے آنے کا علم نہ تھا۔ شیر محمد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ مسیح موعود کون سے ہیں؟ حضور اس قدر سادگی پسند تھے میں حضور کی اس سادگی کی وجہ سے حضور کو پہچان نہ سکا۔ تب راجہ شیر محمد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ہیں۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب اس عید پر یہاں موجود تھے۔ اس لئے یہ عید مولوی محمد احسن صاحب نے پڑھائی۔

(الحکم جلد 38 نمبر 18، صفحہ 3)

ہمارے ہاں تو سادہ کھانے ہوتے ہیں

ایک دفعہ حضور باہر تشریف لائے میاں خجم الدین صاحب مرحوم نے عرض کی کہ حضور عبدالجعیں عرب نے اپنا کھانا بورڈنگ میں کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا:

جانے دو یوگ کھانے کے بہت دلدادہ ہوتے ہیں۔

اتنے میں عبدالجعیں عرب صاحب آگئے۔ حضور نے فرمایا:

یہاں ہمارے ہاں تو سادہ کھانے ہوتے ہیں۔ یہاں جو آئے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر باہر رکھ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی لکر تھا نہ کتب خانہ حالانکہ یہاں سب کچھ ہے ہمارے ہاں پر تکلف کھانے نہیں پکا کرتے۔

(الحکم 14 جون 1935 صفحہ 5)

لنگرخانہ کی ضروریات کا خیال رکھنا

”ایک دفعہ حضرت صاحب نے میاں مہدی حسین کے سپردنگرخانہ کا انتظام کیا اور مجھے فرمایا کہ:-

میاں مہدی حسین ادھار نہ لینا۔ جس چیز کی ضرورت ہو مجھے کہو خواہ آدھی رات ہو۔ آکر مجھے کہو میں دوں گا۔ تھوڑا سا گوشت پکالیا کرو باقی دال۔ آپ

بھیجا ہے۔ حضرت ام المؤمنین کی شادی پر ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو حضور تشریف لائے اور دریافت فرمانے لگے کہ اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھالیا۔“

(الحکم 21/جنوری 1936ء صفحہ 3)

(جاری ہے)

”دس دن کے بعد موج دکھاتا ہوں“

حضرت مسح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

براہینِ احمد یہ چھپ رہی تھی اور روپیہ نہیں تھا۔ چھاپنے والے کا تقاضا تھا۔ تب دعا کی گئی اور یہ الہام ہوا:

”دس دن کے بعد موج دکھاتا ہوں“

ساتھ اس کے یہ بھی الہام ہوا:

”دن ول یو گلو امرتر،“

یعنی اس دن تم امرتر بھی جاؤ گے۔ (1880-82) یہ الہام آریوں کو سنایا گیا۔ خوب کان کھولے گئے۔ چنانچہ دس دن تک ایک پیسہ نہ آیا۔ جب گیارہواں دن ہوا تو ایک سو بیس روپیہ محمد افضل خان صاحب نے بھیج دیئے۔ اسی دن سرکاری سمن آیا اور گواہی کیلئے امرتر جانا پڑا۔ (دیکھو برائینِ احمد یہ صفحہ 469)

(روحانی خزانہ جلد نمبر 18 صفحہ 512)

کہ کھانا کھاؤ۔ میں نے عذر کیا تو حضور نے پھر فرمایا:-

نہیں کھاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ میں چونکہ بعد میں آیا تھا۔ مجھ سے پہلے لوگ فارغ ہو گئے۔ میاں غلام مجی الدین نے پہلے احباب کے برتوں کے ساتھ میرا برتن بھی اٹھا لیا۔ حضور نے اس پر میاں غلام مجی الدین صاحب پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور سخت جھاڑا کہ تم نے مہمان کے آگے سے کیوں کھانا اٹھایا۔

(الحکم 21/ جولائی 1935 صفحہ 4)

حضرت امام جانؒ کا خود کھانا پکا کر بھجوانا

حضرت شیخ احمد صاحب مختارِ عام روایت فرماتے ہیں کہ:

”ایک دفعہ یہ غلام اور منتشر اللہ دتا جو میرا تیا زاد بھائی تھا۔ بیالہ سے آئے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ وہ بپ بہت تیز تھی۔ ایک بجے کا وقت تھا۔ بھوک نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ابھی ہم قادیان سے دو تین میل دور تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھ کو بھوک تنگ کر رہی ہے۔ کیا کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ جلد جلد چلو قادیان میں چل کر تم کو کھانا کھلائیں گے۔ میں نے کہا کہ کہاں سے۔ تو اس نے کہا نبی بخش علی بخش عطار کے ہاں سے۔ کیونکہ میرا بھائی حکیم تھا اور ان عطاروں سے اس کا تعلق تھا۔ جب ہم قادیان پہنچ گئے اور بھوک نے بھی تنگ کیا تو میں اس کو سیدھا گول کمرے میں جوانہی دنوں بنا تھا، لے گیا اور دروازے پر دستک دی۔ غالباً میری نائین اندر سے آئی۔ میں نے کہا کہ اگر چہ رمضان شریف ہے۔ مگر مرزا صاحب کی خدمت میں عرض کرو کر نور احمد کھارے والا آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بھائی ہے اور وہ کھانا طلب کرتا ہے۔ (اس سال رمضان جون میں آیا تھا) جب خادمہ نے اندر جا کر عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ جلدی ان کو کھانا کھلایا جائے۔ بوجہ رمضان شریف کھانا تیار نہ تھا۔ مگر جلدی سے گرم روٹیاں اور بھلی قند سیاہ کی اور کچھ اچار لے کر آئی اور مجھے کہا کہ اس وقت اور کچھ تیار نہیں تھا اور یہ بھی بیوی صاحبہ نے خود پا کر

دو خط، دو جذب

اطف الرحمن محمود

(۱)

بسم الله الرحمن الرحيم ○

مکرم و محترم جناب الطاف حسین صاحب

قامد ایم کیوا یمْ

معرفت ایم کیوا یم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ

یو - کے

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ

میں یہ چند سطیریں، آپ کا شکر یہ ادا کرنے کیلئے سپر قلم کر رہا ہوں۔ صوبہ سندھ کے مختلف مقامات پر ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب اور محمد یوسف صاحب کے ظالمانہ قتل پر آپ نے بڑی جرأت سے مذمت کی ہے۔ آپ نے بلا تاخیر اس سفاقہ کا نثار گٹ کلنگ کا نوش لیا اور ارباب اختیار سے ظلم اور تشدد کی اس روشن کے انسداد کی اپیل بھی کی۔ جس زور اور بے باکی سے آپ نے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی ہے وہ لازماً قابل قدر اخلاقی قوت کا نتیجہ ہے۔

اپریل 2003 میں جب ہماری جماعت کے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب اندن میں وفات پا گئے تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت آپ واحد سیاسی راہ نما تھے جنہوں نے ان کی وفات پر تعزیت فرمائی اور ان کی یاد میں کلماتِ خیر کہے۔ پاکستان کے کسی اور لیدر کو اس کی توفیق نہیں ملی۔

ہم پاکستان کی ایک مظلوم جماعت ہیں مگر ہمارے امام کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہی نصیحت کی جاتی رہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، خواہ کچھ ہو جائے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ عدم تشدد کی اس پایی سے وابستگی کی وجہ سے ہم پر ہر طرح کا تشدد داول ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ اور اسے ہماری ”کمزوری“، سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہی ”ضبط نفس“، ہماری طاقت ہے۔

پاکستان میں ہندوؤں، سکھوں، مسیحیوں اور پارسیوں کے ووٹ، ووٹر لسٹوں میں موجود ہیں مگر، ہم اس وجہ سے محروم ہیں کہ ہم نے اپنے ”گُفر“ کا ابھی تک اقرار نہیں کیا۔ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ”اسلام“ کا انکار کر دیں تو ہمارا نام بھی ووٹر لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم ایسے ووٹ پر تھوکتے ہیں جس میں اپنے ضمیر کا خون کر کے، دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا پڑے! ہم سب حقوق و مراعات اور اموال و املاک چھوڑ سکتے ہیں، اسلام اور قرآن نہیں

چھوڑ سکتے۔

کئی سال قبل، پنجاب کی مسلم لیگ (ن) حکومت نے، علماء کو خوش کرنے کیلئے جماعت احمدیہ کے مرکز "ربوہ" کا نام، جرأۃ تبدیل کر کے "چناب گر" رکھ دیا۔ اس شہر میں، جو 1949 میں لق و دق صحر اتحا، اب ہزاروں احمدی خاندان آباد ہیں۔ اور میونسل کمیٹی کو لاکھوں روپے لیکس میں ادا کرتے ہیں۔ مگر ٹاؤن کمیٹی میں اُن کا ایک بھی ممبر نہیں کیونکہ وہ "گُفار" ہیں۔ اُن کا ووٹ ہی نہیں اور نہ ہی وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سال ہا سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ احمدی اکثریت کے اس شہر میں، کسی شہری کو معلوم نہیں کہ اُن کے لیکس کی رقم کیسے خرچ کی جاتی ہے۔ اکثر اوقات سڑکوں اور گلیوں کی مرمت، نیز شجر کاری اور شہر کی ترمیم و آرائش اور دیگر فرائیں کام جماعت کرتی ہے۔ حقوق کا یہ اتفاق، شاید ہی مہذب دُنیا کے کسی اور شہر میں ہوتا ہو! ہمیں اس شہر میں، جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی اجازت نہیں۔ 1984 میں یہ پابندی عائد ہوئی۔ ہر سال درخواست پر انکار کر دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے مخالف علماء کو ہر قسم کی سہولت حاصل ہے۔ وہ جلوس نکلتے ہیں، جلسے کرتے ہیں اور گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور ہم صبر سے سنتے ہیں۔

بنا کر فقیروں کا ہم بھیں غالب
تماشائے اہلِ کرم دیکھتے ہیں

ملک کا پر لیں بھی علماء سے ڈرتا ہے۔ حتیٰ کہ فروری 2008 کے انتخابات کے قریب، جماعت احمدیہ کو ایک ضروری وضاحت کیلئے، اخبارات میں ایک Paid اشتہار دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ غالباً روزنامہ Dawn نے وہ اشتہار چھاپنے کی جرأت کی۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ اُس کی کیا ذرگت بنی۔ کیا اسی کا نام "آزادی صحافت" ہے؟ ہمارے خلاف ہر قسم کی بے نیا خبریں اور غلط افواہیں "کارِ ثواب" سمجھ کر پرنٹ میڈیا میں چھاپی جاتی ہیں مگر ان کی تردید۔ جواب یا جواب الجواب کے طور پر ایک سطربھی نہیں چھاپی جاتی۔ یہ میڈیا کی غیر جانب داری کا حال ہے۔ جماعت احمدیہ کو اخبار اور جرائد چھاپنے کی اجازت ہے مگر اسے ہر اخبار اور رسالہ باقاعدگی سے سنسر کرانا پڑتا ہے! مھٹھٹو صاحب کی حکومت نے مذہبی جماعتوں، تنظیموں اور مشینوں کے تعلیمی اداروں کو قومیا لیا تھا۔ بہت بعد میں حکومت نے ان اداروں کو واپس کرنے کی پالیسی اپنائی۔ ہماری جماعت نے بھی، صفائحہ کے طور پر ایک کروڑ روپے جمع کروائے۔ مگر ہمیں وہ سکول اور کالج ز آج تک وائز انہیں کئے گئے۔ دوسرے مشنوں اور پروپریٹرزوں کے تعلیمی ادارے واپس کئے جا چکے ہیں۔ مجبوراً جماعت کو نئے تعلیمی ادارے جاری کرنے پڑے۔ مگر کیا مجال ہے کہ ہم نے دامنِ صبر کو ہاتھ سے جانے دیا ہو۔ ہم اپنی روایات کے مطابق، ملک کے وسیع تر امن کیلئے، ہر خلُم کو صبر و ثبات سے برداشت کرتے رہیں گے۔ چند ماہ قبل، ہماری جماعت نے خلافت کی صد سالہ تقریب تشریف کا انعقاد کیا۔ چناب نگر (ربوہ) میں بھی اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس "گستاخی" پر شہر کی تمام احمدی آبادی کے خلاف F.I.R. کاٹ دی گئی!! کیا واقعی پاکستان بھی ایکسویں صدی کا حصہ ہے؟ ہمارے سب مقدمے آسمانی عدالت میں دائر ہیں۔ عاجز ان دعا کے ساتھ دادرسی کی امید رکھتے ہیں۔ اُس کی عالی بارگاہ میں دیر یو ہے اندر ہیں نہیں!!

ایک لمبے عرصے کے بعد ایک شریف انسان نے، غیر معمولی جرأت کا اظہار کرتے ہوئے، معاشرے کی اصلاح اور جمہوری اقدار کی تقویت کیلئے، ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ میں اس جرأتِ رندانہ کے اظہار پر آپ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی صحت و عافیت اور درازی عمر کیلئے دعا گو ہوں۔ میں

آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ خبر سن کر ہزاروں مظلوموں اور بے نواوں کے دکھی دلوں سے آپ کیلئے دُعائیکی ہے۔!

والسلام

خاکسار

لطف الرحمن محمود

(2)

جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب

معرفت جیو چینل،

روزنامہ جنگ کراچی

سلام مسنون!

اس عاجز نے کچھ عرصہ قبل ایک خط آپ کو لکھا تھا جسے ”رجسٹرڈ میل“ سے بھجوایا گیا۔ وہ بھی Geo پرنٹر ہونے والے ایک پروگرام کے حوالے سے تھا جس میں ”تقلیل مرتد“ پر گفتگو کی گئی تھی۔ اس پروگرام میں مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ آپ کے نام خط کی نقل، مفتی صاحب کی خدمت میں ارسال کی اور مفتی صاحب کے نام کسی قدر مفصل عریضے کی نقل آپ کو بھجوائی تھی۔ اس وقت آپ وفاتی کابینہ میں وزیرِ مملکت کے منصب پر فائز تھے۔ کچھ عرصہ بعد آپ اس عہدے سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پرانا چولہ اُتار کر نیالبادہ زیب تن کر لیا۔ آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کے اصل خدو خال نمایاں ہو کر سامنے آتے گئے۔ میں اس وقت آپ کے اُس دور کے بعض ارشادات اور موجودہ خیالات و نظریات کا موازنہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کام کو کسی اور وقت پر اٹھا رکھتا ہوں۔

کافی عرصہ سے مجھے آپ کی نشریات سے وہ پہلی والی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ آپ کی ایک تحریر (”لاوڈ سپیکر“) میری نظر سے گزری ہے۔ میں اس وقت اس پر تبصرہ کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں اس تبصرہ کو ایک مقامی جریدہ میں شائع کروانے کی کوشش کروں گا۔ عاجز نے آپ کے اور قبلہ مفتی صاحب کے نام وہ خطوط بھی شائع کروائے تھے۔

اس دلاز از تحریر میں آپ نے سیاسی اختلاف کی بناء پر یادتی بعض وحدتی وجہ سے، ایم کیوایم کے قائدِ جناب الطاف حسین کو جی بھر کر کوسا ہے اور جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں وہی گھسے پڑھ اعتراف دہرائے ہیں جو ایک صدی سے پیش کئے جا رہے ہیں۔ علمی اور تحقیقی رنگ میں ان تمام بودے اعتراضات کے مُسلکت جوابات دیئے جا چکے ہیں۔ اس وقت احمدیہ لٹریچر سے ان نکات کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ آپ کے مضمون (”لاوڈ سپیکر“) میں دئے گئے درج ذیل ریمارکس پر تبصرہ کرنے کی اجازت چاہوں گا:

”جنہیں پاکستان کا آئین غیر مسلم قرار دے انہیں اسلام کا ایک فرقہ کیسے کہوں؟“

”جن کے گفر پر امت مسلمہ کا اجماع ہو، ان کی مدح سرائی کیلئے اجتماع کیسے منعذد کروں؟“

”جو یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کے سینے کو گود رہے ہوں۔۔۔ کم از کم اسلام کے ”ان ناجائزوں کو اپنانام دینے کیلئے تیار نہیں۔“

آئین میں غیر مسلم قرار دینے کا فتویٰ

دنیا کی ہر خود محترمہ دار مملکت کا آئین موجود ہے۔ آئین کا بنیادی مقصد، مملکت کو ملک کے نظم و نت کو چلانے اور امورِ مملکت کو عدل و انصاف سے سر انجام دینے کیلئے لائج عمل مہیا کرنا ہوتا ہے۔ آئین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ شہریوں کے گفر و ایمان کا فیصلہ کرتا پھرے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں مذہب کو امورِ ریاست سے الگ رکھا گیا ہے۔ یہی حضرت قائد اعظمؐ کی قانون ساز اسمبلی کو ہدایت تھی۔ پاکستان 1947ء میں قائم ہوا مگر آپ نے جس آئین کا حوالہ دیا ہے۔ وہ 25 سال بعد 1972ء میں نافذ کیا گیا اور اس میں 2 سال بعد 1974ء میں بعض اندر و فی اور بیرونی عناصر کے دباو پر ایک ترمیم کے ذریعے جماعت احمدیہ کے ارکان کو ”غیر مسلم“، قرار دیا گیا (قانونی مقاصد کیلئے For Purpose of Law)۔ بھو صاحب نے اس ”90 سالہ مسئلہ“ کے حل کا کریڈٹ لینے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ترمیم کے بل بوتے پر اپنے اقتدار کو دوام دیں مگر ان کا داعی اقتدار کا خواب جزء ضیاء الحق کے مارشل لاء کی نذر ہو گیا۔ بعد ازاں انہیں تختہ عدار پر جھولنا پڑا۔ اس ترمیم کو پاس کرنے والی قومی اسمبلی کے ارکان کی دینی اور اخلاقی حالت کے بارے میں جزء ضیاء الحق کی حکومت نے ایک قرطاس ابیض شائع کیا۔ آپ اس ”قرطاس ابیض“ کا ضرور مطالعہ کریں۔ آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس قسم کے ”ارکان پارلیمنٹ“، کو شہریوں کے گفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کیلئے جمع کیا گیا۔

کیا سنگار نااہلوں نے مجھ کو
ہے کافی یہ ثبوت بے گناہی

آئین پاکستان کی جس ترمیم پر آپ کو اتنا ناز ہے وہ حضرت نبی کریم ﷺ کی تعلیمات سے مُتحارب اور مُتصادم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں علی وجہِ بصیرت صحبتا ہوں کہ اس ترمیم کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ آئین کا تقہس محروح ہوا ہے بلکہ توہین رسالتؐ کی اس نحوست کی وجہ سے یہ بے برکت ہو گیا ہے۔ جب تک اس ترمیم کو آئین سے نہیں نکالا جاتا، یہ بے برکتی برقرار رہے گی! حضرت نبی کریم ﷺ نے ”مسلمان“ کی 12 اہم تعریفیں (Definitions) کی ہیں۔ اُن میں سے ایک کو ہم مسلمان کی ”سیاسی تعریف“، قرار دے سکتے ہیں اور دوسری کو مسلمان کی ”مذہبی تعریف“۔

مسلمان کی سیاسی تعریف

اس تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی مملکت کے کس شہری کو مسلمان قرار دیا جائے گا۔ بھرت مدینہ کے کچھ عرصہ بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مدینہ کی مسلم آبادی کی مردم شماری کا حکم دیا۔ صحابی نے حاضرِ خدمت ہو کر عرض کیا کہ وہ اس فہرست میں نام درج کرتے وقت کس معیار کو پیش نظر رکھے؟ حضورؐ نے فرمایا:

”جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اُسے اس فہرست میں لکھ لو۔“

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بالفاظِ دیگر حضورؐ کا ارشاد تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اُسے ”لَسْتَ مُؤْمِنًا“ نہ کہو۔ جن منافقین مدینہ کے نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائیں، اُن کے لیڈر عبداللہ بن اُبی کے کفن کیلئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متبرک تیصیع عطا فرمائی اور اس کی نمازِ جنازہ پڑھائی!

مسلمان کی مذہبی تعریف

حضور کا ارشاد ہے: (ترجمہ)

”جو مسلمان کی طرح نماز پڑھتا ہے، اور اہلِ اسلام کے قبلہ کو قبول کرتا ہے اور مسلمان کا کیا ہوا ذیجہ کھالیتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس کا صاحن ہے۔“

کتنی سادہ اور واضح تعریف ہے لیکن آئین پاکستان کی ترمیم کے موئید علماء نے اپنی ضدہ اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مندرجہ بالا دونوں تعریفوں کو نظر انداز کر دیا۔ 1954 میں یہی علماء فسادات پنجاب کی تحقیقاتی عدالت کے سامنے ”مسلمان“ کی کوئی تعریف پیش نہ کر سکے۔ بیس سال کے بعد، آخر کار ان پر ایک ”تعریف“ کا انکشاف ہوا۔ جس کی رو سے، مسلمانوں کی طرح نماز ادا کرنے والے اہل قبلہ اور اہل ایمان کا ذیجہ قبول کرنے والے کلمہ گو، افراد جماعت احمدیہ کو قلم کی ایک جنہیں سے دائرة اسلام سے خارج کر دیا گیا۔

ہوئے کس درجہ فقیہاں حرم بے توفیق

بھٹو صاحب بنیادی طور پر ایک سیاسی آدمی تھے۔ وہ اس آئینی ترمیم کے سیاسی فائدے سے مطمئن تھے۔ اس ترمیم کے ذریعے انہوں نے اندر وونی اور بیرونی عناصر کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ مگر انہوں نے احمدیوں کی مذہبی آزادی سلب نہیں کی۔ وہ 1974 کے بعد بھی اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کہتے رہے۔ نمازوں کیلئے اذانیں دیتے رہے۔ قرآن مجید چھاپتے اور تقسیم کرتے رہے۔ اس طرح مسلم شفافت کے دیگر مظاہر کو اپنانے میں بھی وہ آزاد رہے۔ مگر اپریل 1984 میں جزل ضیاء الحق نے ایک آرڈی نینس کے ذریعے یہ آزادی سلب کر لی۔ لوگوں کو ”سکھا شاہی“ کا زمانہ یاد آگیا۔ احمدیوں کیلئے اذان دینا منوع قرار دیا گیا۔ اُن کی مساجد کی پیشانیوں سے کلمہ طیبہ کے مبارک حروف مٹا دیے گئے۔ اگر کسی احمدی نے سینے پر کلمہ طیبہ کا تیج سجا دیا تو اسے جیل بھیج دیا گیا۔ ایسے لوگوں سے جیلیں بھر گئیں۔ حتیٰ کہ دوسرے قیدیوں نے ان اسیروں کو ”کلمہ والے“ کہنا شروع کر دیا۔ اپنے کام کی جگہ پر نماز پڑھنے والے احمدیوں کو قید اور جرم انوں کی سزا آئیں دی گئیں۔ شادی کے دعوت نامے پر ”بسم اللہ الرحمن الرحيم“ لکھنے پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسلام کا ایسا ”نفاذ“ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں دیکھا گیا۔ دنیا کے کسی گھٹیا سے گھٹیا ملک میں بھی تدفین کے بعد مردوں اور ان کے لواحقین کو مزید اذیت نہیں دی جاتی۔ مگر مملکت خداداد پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ بارہا احمدی مردوں کی نعشوں کو قبروں سے نکال کر، پولیس اور رسول حکام کی موجودگی میں، دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ اس کی وجہ؟ احمدی مردوں کو قبروں میں اتنا سخت عذاب دیا جاتا ہے کہ کئی میل تک آگ کے شعلے جاتے ہیں۔ ایسی قبروں سے دوسرے مسلمانوں کی قبروں کو محفوظ رکھنا قومی فریضہ ہے!!

ہم نے ہر حال میں دامنِ صبر ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور ہر معاملہ خدا کے سپر دیکیا جس کے ہاں دیرتو ہے اندھیر نہیں!

میں واضح الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں پاکستان کی مقدس سر زمین کا کوئی تصور نہیں اور نہ ہی ان مظلالم کی ذمہ داری اس پاک وطن پر ڈالی جا سکتی ہے۔ البتہ اس زمین پر بننے والے بعض لوگ ان جرام میں ملوث ہیں۔ ہمیں وطن سے کوئی شکوہ نہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ماں کے ایک بیٹے کو دوسرے بھائی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں مگر بھائیوں کے مظلوم کی وجہ سے وہ مظلوم بیٹا اپنی ماں سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ ان تمام زیادتیوں کے باوجودہ

مادر وطن سے ہماری محبت متاثر نہیں ہوئی۔ کم نہیں ہوئی، البتہ ”برادران یوسف“، سے اس ظلم کی توقع نہ تھی!

تحریک پاکستان میں ہماری جماعت، روزِ اول سے حضرت قائد اعظم کی ہمزبان اور ہمراپ کاب رہی اور جن مولویوں کے کہنے پر جماعت احمدیہ کے افراد کو دائرۂ اسلام سے خارج کیا گیا، وہ اور ان کے بزرگ پاکستان کو ”پلیستان“، اور قائد اعظم کو ”کافر اعظم“ کہتے رہے۔ آج انہیں پاکستان کے ”محافظ“ ہونے کا دعویٰ ہے ۶

منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے

پاکستان میں بد امنی، صوبائی، اسافی اور علاقائی تعصب اور نفرت، فرقہ واریت، دہشت گردی، خودگش حملوں کا کلپن، دیگر مسائل اور روزافزوں مصائب پر ہم سب افسرده ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حالات کی بہتری کے لئے دعا گو ہیں کیونکہ ان حالات میں، مصائب اور مشکلات کا شکار بیچارے عوام بنتے ہیں، جو زیادہ تر بے قصور ہوتے ہیں۔ سزا کے مستحق صرف آئمۃ التکفیر اور ان کے مفید امتحنٰت ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی تھری تھلیٰ کی تھلیٰ، عبرتِ عامہ کیلئے، ان پر گرتی رہتی ہے! آئندہ بھی گرے گی!!

اگر کوئی غیر جانب دار داش و، حالات میں بگاڑ کی تاریخ مرتب کرے تو وہ یہ دیکھ کر حیران اور ششدرا رہ جائے گا کہ اس نجاست کا آغاز، آئین میں اس ظالمانہ ترمیم کے جلد بعد شروع ہو گیا اور اس کا دائرة وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ میں مگر عرض کرتا ہوں کہ جب تک آئین میں ظلم اور جرکی اس علامت کو ختم نہیں کیا جاتا، یہ بے برکتی مسلط رہے گی بلکہ اس میں مسلسل اضافہ جاری رہے گا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس تقدیر مُبِرم کو بدل دیجئے!

میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ستمبر 1974 میں میں جس طرح کا ”مسلمان“ تھا، آئین میں اس ترمیم کے بعد بھی، اسی طرح کا ”مسلمان“ ہوں۔ مجھے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں ذرہ برا برٹھ نہیں۔ مجھے اپنے اسلام کیلئے کسی اسی میں سے تصدیق کی ضرورت نہیں۔ نہ ہی دور کعت کے کسی امام کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے مسلمان ہونے کی سند جاری کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام ”مسلمان“ تجویز فرمادیا ہے۔ **هُوَ سَمْكُمُ الْمُسْلِمِينَ (الحج: 79)**

یہ قرآنی سند میرے لئے کافی ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعریف (Definition) کے علاوہ مجھے کسی اور آئینی دستاویز کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو کبھی فرصت ملے تو مختلف فرقہ ہائے اسلام کے علماء کے ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے فتووں کو جمع کر کے ایک گوشوارہ بنائیئے اور پھر تلاش کیجئے کہ امّہ میں کون باقی رہ گیا ہے جسے مسلمان شمار کیا جاسکے۔ بعض فتووں کی زبان اتنی غلیظ ہے کہ کوئی شریف انسان انہیں پڑھ بھی نہیں سکتا۔

بقول اقبال ۶

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں میں یہود

جن کے کفر پر امّت مسلمہ کا اجماع ہو، اُن کی مدح سرائی کیلئے اجتماع کیسے منعقد کروں؟

آپ کس ”اجماع“ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کون سی امّت؟ فتووں کی شکل میں پائے جانے والے اس عظیم ”علمی ورثے“، کو کیجا کیا جائے تو آپ پر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ اہل تشیع کے 32 اور اہل السنّۃ کے 40 فرقوں کے ”فتاویٰ“ کو کیجا کیجئے۔ ان سب کے اپنے گفر و ایمان پر سوالیہ نشان متعلق ہے۔ ان کے اجماع کیا حیثیت ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امّت کے 73 فرقوں میں بٹ جانے کی خبر دی ہے (تفصیل کیلئے ملاحظہ

فرمانیئے۔ ترمذی، ابواب الایمان، باب افتراق هذہ الامّة

حدیث لٹریچر میں مزیدوضاحت ملتی ہے کہ ان فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ”ناجی“ ہو گا باتی 72 ”ناری“ کھلانے کے مستحق ہوں گے یعنی ان سے اہل جہنم کے کام سرزد ہوں گے۔ اس وعدے کے پیش نظر ہر فرقہ خود کو ”ناجی“ اور دوسروں کو ”ناری“ قرار دیتا رہا ہے۔ مگر آخر کار اس سیناریو کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک فرقہ کے خلاف 72 فرقے متحد ہو گئے۔ ایک فرقہ ایک طرف اور 72 اُس کی مخالفت میں دوسری طرف متحدوں کیجا ہو گئے۔ میں اس مرحلے پر اس اجماع کی تاریخ اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں اس ”اجماع“ کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر اسے ملہ معظمه لے جایا گیا اور وہاں عرب علماء کو مگرہ کیا گیا۔ چنانچہ ورلڈ مسلم لیگ مؤتمر عالم اسلامی نے اس لائئن کو ”ٹو“ کیا۔ اس طرح مختلف ممالک سے آنے والوں کو ایک فرقے جماعت احمدیہ کے خلاف متحد کر دیا اور اس طرح ایک کے خلاف 72 کے کیجا ہونے کا نظارہ دُنیا نے دیکھ لیا۔ یہ ہے اس اجماع کی حقیقت جس پر آپ فخر و مبارکات کا اظہار فرم رہے ہیں۔ یہ ایک روح فرسا تاریخی حقیقت کا اعلان ہے۔ جس طرح 1400 سال قبل ”الندوہ“ میں کیا جانے والا ایک فیصلہ، مذمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اس ”اجماع“ کو اسی طرح یاد کیا جائے گا!

1974 میں ہماری قومی اسمبلی نے جو فیصلہ کیا وہ ورلڈ مسلم لیگ مؤتمر عالم اسلامی کے مตذکرہ بالا فیصلے کی صدائے بازگشت تھی۔ اس کے ساتھ لمبی چوڑی مالی ”فتوات“ بھی ہوئیں۔ آنے والے مورخین بے برکت ”دفینوں“ کو کھو دیں گے! ہم اب بھی اپنے غلطی خورده بھائیوں کی ہدایت، اور فلاح و فوز کیلئے دعا گو ہیں۔ خدا کرے بے بنیاد غلط فہمیوں کا گرد و غبار چھپت جائے اور ہر سعید کو حق و باطل میں تمیز کی توفیق عطا ہو۔ ہم بانی جماعت احمدیہ کی زبان میں یہی کہیں گے

اے دل تو نیز، خاطرِ ایناں، نگاہِ دار
کا خر کنند، دعویٰ حُبٌ پیغمبرِ مُ

”یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کے سینے کو گود رہے ہیں۔۔۔ کم از کم اسلام کے ان ناجائزوں کو اپنانام دینے کیلئے تیار نہیں۔“

اس الزام کے جواب میں، یہی عرض کروں گا ”لعنة الله على الكاذبين“، آمین۔ جسے آج اسرائیل کہتے ہیں وہ سارا علاقہ 14 مئی 1948 سے قبل ”فلسطین“ کھلاتا تھا۔ اسرائیل کے قائم ہونے سے بیس چھپیں سال قبل، جماعت احمدیہ کے مبلغین و مبشرین وہاں بھی تبلیغ کیلئے پہنچے۔ قیام اسرائیل سے بہت پہلے سے کبایہ کے مقام پر ہماری مسجد، سکول اور مرکز تبلیغ کے دفاتر قائم ہیں۔ اس وقت سے فلسطینی احمدی وہاں رہ رہے ہیں اور اسرائیل کے قیام کے بعد بھی بہت سے دوسرے فلسطینیوں کی طرح انہوں نے بھی وہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں جماعت احمدیہ کی شاخیں قائم ہیں اور ان ممالک میں احمدی مبلغین آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج تک اسرائیل میں کوئی شخص پاکستانی پاسپورٹ پروہاں نہیں گیا۔ چونکہ ہم ایک بین الاقوامی جماعت ہیں۔ اس لئے دوسری قومیوں سے تعلق رکھنے والے مبلغین اپنے بھائیوں کی مذہبی اور تربیتی ضروریات کی تکمیل کیلئے وہاں جاتے رہے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں۔ جب مصر، اردن، ترکی، مراکش وغیرہ ممالک کے سفارت کاروہاں آجائیں گے اور وہاں آجائیں گے تو مبلغ تبلیغ کے لئے کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا یہود کو تبلیغ کرنا سُنّت نبوی نہیں؟ کیا قرآن مجید میں، میسیوں ایسی آیات موجود نہیں جن میں یہود کو دعوت ایمان دی گئی ہے؟

اطلاع اعرض ہے کہ ہماری جماعت کے انٹریشنل ٹو وی (MTA) کی ایک شاخ کبایہ میں بھی موجود ہے، اس کے پروگرام میں قرآن و حدیث کے علوم و

معارف، کے ساتھ ساتھ نبیوں کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام پر مشتمل قصائد بھی نشر کئے جاتے ہیں۔ اسے آپ ”اسرا میل کی گود میں بیٹھ کر عقیدہ ختم نبوت کے سینے کو گودنا“ کہتے ہیں۔ میلاد النبیؐ کے مبارک دن، نشرت پارک میں، درود پڑھنے والوں کو بھوں سے اڑانا، ختم نبوت کے سینے کو گودنے کے مترادف ہے۔ اس گھناؤ نے جرم کے مرتب کون لوگ تھے؟ لگائیے جلدی سے الزام ”ہندو اور یہود“ پر۔ جہادی جماعتوں کے خریدے ہوئے صحافی اور اینکر، اس گردان کے علاوہ اور جانتے بھی کیا ہیں؟

دوسروں کو ”ناجائز“ اور ”حرام زادہ“ کہنا آپ کا تکلیف کلام ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کو ولادت کے بعد کیا چیز چٹائی گئی تھی، جس کا اثر اب تک آپ کے کام وہن میں باقی ہے بلکہ یہ کہنا درست ہو گا کہ اس کی تاثیر آپ کی فطرتِ ثانیہ بن چکی ہے۔ ڈنمارک کے بارے میں آپ کی ایک تحقیق (مطبوعہ مضمون کی شکل میں، جس کا تراشہ میری فائل میں موجود ہے) میرے سامنے ہے جس میں آپ نے اُس ملک کی 60 نیصد آبادی کو ”ناجائز“ یعنی ”حرام زادہ“ قرار دیا ہے۔ جہاں تک اسلامی اخلاق کا تعلق ہے یہ کسی محتاط صاحب ایمان کی زبان نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ ان بد جنت یہودیوں کا انداز لفتگو تھا جنہوں نے حضرت مسیح اہن مریم اور سیدہ مریم صدیقہؓ کی شان میں بے ادبی کی جسارت کی۔ کبھی آپ کو فرصت ملے تو یہ تحقیق بھی فرمائیں کہ ڈنمارک اور سینڈنے نیوین ممالک میں مقیم مسلمان، ”ملٹی کلچر ازم“، کے فروع و استحکام کے نام پر ”ناجائزوں“ کے ٹیکس سے کتنی رقوم وصول کر کے اپنی مساجد اور دینی مدرسون کا نظم و نسق چلاتے ہیں۔ ”ناجائزوں“ کا مال کیسے ”جائز“ قرار پایا؟ ویسے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈنمارک جیسے ”نپاک“ ملک میں مسلمانوں کی یہ پاک اور مطہر نسل کیا کرنے گئی ہے؟ ذعا کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ”ناجائزوں“ کے ٹیکس کے ”حرام مال“ سے حصہ وصول کرنے والوں پر

ہر چیز کو درکاں نمک رفت نمک شد

والا معاملہ نہ ہو جائے؟

آپ کو خیر سے علم قرآن کا دعویٰ بھی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنّتِ مطہرہ کی اطاعت کرنے کا ڈھنڈو رہ بھی پڑتے رہتے ہیں۔ بھلے دوسروں کو ”ناجائز“ کہنا آپ کا تکلیف کلام ہی سہی، مگر یہ بھی ”قذف“ کی ایک شکل ہی ہے۔ قذف کے بارے میں قرآن کریم کی آیات پر غور فرمائیے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگئی حاصل کیجئے۔ اس کے بعد شوق سے دوسروں کو ”ناجائز“ اور ”حرام زادہ“ کہنے کی جگالی کرتے رہیے!! مجھے ڈر ہے کہ کہیں مرگ ناگہانی کے وقت، یہی مرغوب الفاظ آپ کی زبان پر نہ ہوں !!

اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ صادق اور کاذب نیز مصلح و مفسد کو خوب پہچانتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے۔“

کسی مگار کی چالاکی، کسی شاطر کی شوخی، کسی عیار کی پھرتی، کسی بدگوکی بذریعی اور کسی ایکٹر کی اداکاری عوام کو تو دھوکہ دے سکتی ہے۔ خداۓ علیم و خبیر کو نہیں! ایک مرتبہ پھر بڑے عجز و انکسار سے خدائے قہار و جبار سے اس معاملے میں فیصلہ نافذ کرنے کی استدعا کرتا ہوں۔ لعنة الله علی الکاذبین، آمین۔

والسلام

خاکسار

لطف الرحمن محمود

حضرت امیر بی صاحبہ عرف مائی کا کو

امتنہ المنان قمر، نیوجرسی

بزرگوں کے ذکر خیر کو زندہ رکھنے کے ارشاد کے تحت آج میں اپنی امی سارہ بیگم صاحبہ کی پھوپھی کے حالات قلمبند کرنے کی کوشش کروں گی۔ قبل اس کے کہ اُن کے حالات لکھوں ان کا تعارف کرتی ہوں۔ تارت خ احمدیت جلد نمبر 2 میں صفحہ 464 کے بعد جو گروپ فوٹو دی گئی ہیں ان میں ایک تصویر "خاندان سیکھوں برادران" کی بھی ہے۔ اس تصویر کے نیچے دوسری لائن میں "امیر بی صاحبہ عرف مائی کا کو صاحبہ صحابیہ (313)"، لکھا ہوا ہے۔ انہی صاحبہ کا ذکر خیز کر رہی ہوں۔ ان کے تینوں بھائیوں کا نام، سیکھوں برادران کی سرخی کے تحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متعدد کتب میں آتا ہے۔ یہ تینوں بزرگ قدیم ترین صحابی اور سگے بھائی تھے۔ حضرت اقدس کے ساتھ انہیں فدائیانہ تعلق تھا اور انکے خاندان کے دعویٰ ماموریت سے بھی پہلے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ذاتی روابط تھے اور دلی عقیدت کا شرف حاصل تھا۔

ضمیمه انجام آئھم میں جن 313 اصحاب کے نام درج ہیں اس میں ان تینوں بھائیوں کے نام مندرجہ ذیل نمبر شمار کے تحت لکھے ہوئے ہیں:

نمبر شمار (30) میاں جمال الدین سیکھوں گوردا سپور معہ اہل بیت (یہ نیمرے نانا کا نام ہے)

نمبر شمار (31) میاں خیر الدین سیکھوں گوردا سپور معہ اہل بیت (پہلے صدر خدام الاحمدیہ، مولوی قمر الدین صاحب کے والد بزرگوار)

نمبر شمار (32) میاں امام الدین سیکھوں گوردا سپور معہ اہل بیت (مولانا جلال الدین صاحب شمس خالد احمدیت کے والد محترم)

کتاب سیرۃ و سوانح حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ تصنیف و تالیف پروفیسر سیدہ نیم سعید صاحبہ کے صفحہ 52 کے آخر میں درج ہے۔ عرفانی صاحب (الحکم کے ایڈیٹر اور دیرینہ صحافی) لکھتے ہیں، اُن پرانی مستورات میں سے جنہوں نے حضرت امام جانؓ کو دہن بنے ہوئے دیکھا اب کوئی موجود نہیں البتہ مولوی جلال الدین صاحب شمس کی پھوپھی جو مائی کا کو صاحبہ کے نام سے مشہور ہیں اور جو حضرت امام جانؓ کی خادمہ ہیں اور ایک عشق سے خدمت کرتی ہیں نے مجھے سنایا کہ جب حضرت امام جانؓ نئی نئی بیا ہی ہوئی آئیں یعنی 1884 کے نومبر یا دسمبر کے ابتدائی دنوں میں تو میں بھی قادیان آئی

ہوئی تھی۔ تو میں نے سنا مرزا صاحب ”وہ ہٹی“ بیاہ کر لائے ہیں۔ اس لئے میں دیکھنے چلی گئی۔ وہ کہتی ہیں:

”حضرت امام جان 18-19 سال کی لڑکی تھیں بالکل تپلی دُبلي اور نحیف سی تھیں۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے پنجاب کے رواج کے بالکل خلاف رنگیں یا سرخ جوڑا نہ تھا۔ اس وقت کھل پائیچے کا غاراہ پہنے ہوئے تھیں۔ مجھے دیکھ کر کمرے سے باہر آگئیں اور مجھے جب ایک دُبلي تپلی سی کم عمر لڑکی سفید لباس میں نظر آئی تو توجہ ہوا اور میں نے کہا کہ ”ایہہ کس طرح دی وہ ٹی (ڈھن) اے۔“

اس کے بعد مائی کا کوکا بیان ہے کہ ہم نے پھر حضرت امام جان کی جوشان دیکھی اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔“

سیرت کی اسی کتاب میں عصمت راجہ تحریر کرتی ہیں کہ ان کی والدہ کی دادی صاحبہ جومائی کا صاحبہ کی بجاوں تھیں کو حضرت امام جان نے ایک ملاقات میں فرمایا:

”تم میری سہیلی بنوگی۔ حضرت امام جان کی اس شفقت اور محبت بھری گفتگو نے ان سے بے تکلف ملنے کا راستہ کھول دیا اور دیا مسیح میں مائی کا کو صاحبہ اور ان کی بجاوں کا آنا جانا ہو گیا۔“

اسی کتاب میں میری بڑی بہن امۃ الرشید شوکت صاحبہ بیگم ملک سیف الرحمن صاحب سابق مفتی سلسلہ احمدیہ تحریر کرتی ہیں کہ میری والدہ سارہ بیگم صاحبہ جو 313 رفقاء میں سے ایک مخلص رفیق میاں جمال الدین صاحب سیکھوانی کی بیٹی تھیں اور خود بھی انہیں 9 سال کی عمر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام جان حضرت امِ ناصر صاحبہ کے ہمراہ ہمارے گاؤں سیکھوان تشریف لائیں۔ نانا جان اور ان کے دونوں چھوٹے بھائی اکٹھے ایک جگہ رہتے تھے۔ دیہاتی دستور کے مطابق تینوں گھروں میں جو کچھ پکا ہوا تھا ان کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے وہ سادہ کھانا نہایت خوشی سے مزے لے لے کر کھایا۔ موٹھ کی کھجڑی جو دیہاتی سردیوں کے موسم میں اکثر کھاتے ہیں، بہت پسند فرمائی اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی مائی کا کوکے ذریعے اس قسم کی کھجڑی کی فرمائش کر کے منگاتی رہیں۔ جو آپ کی بے تکلفی اور مریبانہ سلوک کو ظاہر کرتا ہے۔

مائی کا کوکی زندگی کے حالات لکھنے کی طرف مجھے اس وقت توجہ ہوئی جب میں 1991 کے جلسہ سالانہ پر قادیانی گئی تو صاحبزادی امۃ النصیر صاحبہ بیگم پیر معین الدین صاحب مرحوم مجھے بازو سے پکڑ کر دیا مسیح کے ایک کمرے کی طرف لے گئیں کہ یہ وہ کمرہ ہے جہاں مائی کا کورہا کرتی تھیں۔ اس کے بعد امر یکہ میں مجھے حضرت صاحبزادی امۃ الرشید صاحبہ بیگم میاں عبدالرحیم صاحب مرحوم نے بتایا کہ یہ وہ کمرہ تھا جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چھ ماہ کے روزے رکھتے تھے۔ اور نور کی مشکلیں آب زلال کی صورت میں اس کمرے میں انڈیلی گئی تھیں اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ نور اس درود شریف کی وجہ سے انڈیلیا گیا ہے جو آپ کثرت سے آنحضرت ﷺ پر بھیجا کرتے تھے۔

مائی کا عنقولان شباب میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ بچے بھی صغری میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کے سرال والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سخت مخالف تھے۔ اس لئے جب ان کے نازیبا الفاظ سنبنا برداشت میں نہ رہا تو آپ اپنے بھائیوں کے پاس آگئیں۔

حضرت صاحبزادی امۃ الرشید بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ایک دن شمس صاحب (مولوی جلال الدین صاحب شمس) کے والد صاحب حضرت امام جان کے گھر آئے اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب مائی کا کوآپ کے پاس ہی رہے گی مگر ایک شرط ہے کہ اسکا کھانا ہمارے گھر سے آیا کرے گا اور بتاتی ہیں کہ ڈودھ اور رس ناشتے کیلئے اور کھانا آپ کو با قاعدہ گھر سے پہنچاتے رہے۔

جب انڈونیشیا میں اور پاکستان کے شمالی علاقے میں سونامی اور زلزلے آئے تو میرے کانوں میں حضرت مسیح موعودؑ کی کئی سال پہلے کی پیشگوئی:

”اے یورپ تو بھی امن میں نہیں اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں اور اے جزائر کے رہنے والو! کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔“

کے الفاظ کافی عرصہ تک گوئختے رہے کہ حضرت مسیح موعودؑ نے پہلے سے ہی متنبہ کیا تھا کہ توبہ کرو قائم پر حرم کیا جائے۔

مائی کا کوکا دیار مسیح میں رہنے کی برکت سے خدا تعالیٰ سے بہت تعلق تھا بظاہر ان کا ذریعہ آمد کچھ نہیں تھا میرے خیال میں ہر ایک کام کر کے خوش محسوس کرتی تھیں اس لئے لوگ بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔

حضرت صاحبزادی آصفہ مسعودہ بیگم صاحبہ اہلیہ صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب مرحوم نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے چندہ کی تحریک کی۔ آپ (مائی کا کوکے) کے پاس کوئی رقم نہ تھی آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھا اُن میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا میں مصروف ہو گئیں کہ اے اللہ تو مجھے پیسے دے تا میں چندہ میں دے سکوں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس درخت سے ایک کپڑے کی پوٹی گری جس میں کچھ رقم تھی۔ آپ وہ رقم حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کے پاس لے گئیں کہ یہ چندہ میں لے لیں اور سارا واقعہ بھی سنایا۔ آپ نے اسکے لئے کافی اعلان کروائے کہ اگر کسی کی رقم ہوتا وہ آکر لے جائے مگر کوئی نہ آیا۔ اور جب کافی عرصہ کے بعد یقین ہو گیا کہ اس کا ما لک کوئی زمینی انسان نہیں تب وہ رقم چندہ کیلئے لے لی گئی۔ امیر بی بی عرف مائی کا کوکے حالات زندگی میں نے لوگوں سے پوچھ کر اکٹھے کئے ہیں کوئی کہتا ہے انہوں نے دوچ کئے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ تین بار حج ادا کیا ہے، صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔

حج کے دوران اُن کو جو تکالیف ہوئیں، صفا اور مروہ کے درمیان سمعی کرتے ہوئے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور اسی طرح حج کے دوران چلتے ہوئے وہ دُور کسی ایسے مقام کی طرف چل گئیں جہاں پر کسی تیز دھار والے اوزار سے انکا پاؤں کٹ گیا۔ خود ہی پٹی کر لی اور اپنا سفر مکمل کیا۔ واپسی پر ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحبؒ کے مشورہ کا اکثر ذکر کیا کرتی تھیں کہ ”چلتی رہو بیٹھنا نہیں ورنہ پھر چل نہ سکوگی۔ دُودھ اور جلبیاں کھاتی رہو۔“

حضرت امام جانؒ اکثر پیدل سیر کیا کرتی تھیں۔ حضرت صاحبزادی امتہ الشکور بیگم صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر مرزا اللیق احمد صاحب سیرت حضرت امام جانؒ میں بیان کرتی ہیں کہ حضرت امام جانؒ ہماری قادیانی والی کوٹھی النصرت میں پیدل سیر کرتی ہوئی تقریباً روزانہ صحیح تشریف لاتیں۔ حضرت امام جانؒ کے ساتھ اکثر مائی کا کوہوتیں۔ وہاں سے پھول اور پھل توڑ کر ہم توکری میں ڈال کر اُن کو دے دیتے۔

نواب محمد علی صاحبؒ اور نواب عبداللہ خان صاحبؒ کا بھی اکثر ذکر کیا کرتیں کہ امام جانؒ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں آپ کی بہت عزت کرتے۔ ایک دفعہ مالیر کوٹلہ میں بھی حضرت امام جانؒ آپ کو ساتھ لے گئیں۔ آپ کی زندگی اور دیار مسیح میں رہ کر خدمت کرنے کے حالات کا مجھے کچھ زیادہ علم نہیں ہو سکا۔ آپ بہت ہمدرد اور نیکی کے کام کرنے والی خاتون تھیں۔ قادیانی میں دارالشیوخ میں جو یتیم اڑکے رہا کرتے تھے اُن کی اکثر دعوت کیا کرتی تھیں۔

مائی کا کو 1868 میں پیدا ہوئیں اور وفات 1953 میں ربوہ میں ہوئی۔ آپ کا وصیت نمبر 498 ہے اور بہشتی مقبرہ ربوہ میں احاطہ خاص کے جنوبی جانب اپنے محبوبوں کے قدموں کی طرف مخواہب ہیں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کے درجات بلند کرے اور اُن کو اعلیٰ علیین میں جگدے، آمین۔

حضرت مسح موعود علیہ السلام کے پرمعارف فارسی منظوم کلام پر تضمین

چودھری محمد علی مختار عارفی

تونے یارب! دی مجھے اس کی غلامی کی سند
وہ غلامی جس کی لذت کی نہایت ہے نہ حد
مان لے یہ انجا بھی ، الغیاث و المدد!
”در رہ عشقِ محمد“ ایں سرو جانم رود
ایں تمنا، ایں دعا، ایں در لم عزمِ صمیم“

عشق کی منزل کٹھن ہے، راستے ہے صعب ناک
مجھ کو ڈر ہے تم نہ ہو جاؤ کہیں رہ میں ہلاک
آؤ کرلو مجھ سے مل کر اس سفر میں اشتراک
”از عنایات خدا وز فضل آں دادا پاک
دشمن فرعونیا نم بہر عشق آں کلیم“

”گرچہ ہوں میں بس ضعیف و ناتوان و دل فگار
ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار
میں ہوں وہ نورِ خدا جس سے ہوا دن آشکار
”مُنْت ایزد را که مَنْ بر رَغْمِ اهْلِ روزگار
صد بُلارامی خَرَم از ذوقِ آں عَيْنِ انعیم“

میں غلامِ احمد مرسل ہوں اے کڑو بیاں!
دے رہا ہوں اپنے خالق کی بڑائی کی اذال
قریب قریب، ربوبه ربوبه، قادیاں در قادیاں
”آں مقام ورتبت خاصل“ کہ ہر من شد عیاں
گفتے گردیدے طبع دریں راہ سلیم“

لائی ہے بادِ صبا اُس پار سے خیر عظیم
وہ خدائے لمیزیل جو عرشِ کن پر ہے مقیم
ہے اسی کو علم سارا ہے وہی تھا علیم
”شانِ احمد“ را کہ داند جز خداوندِ کریم
آنچنان از خود جدا شد کمزیاں افتاد میم“

ہمسر اُو در زمین و آسمان مادر نہ زاد
دیکھ کر اس کو پکار اٹھے فرشتے زندہ باد
خوش جمال و خوش خیال و خوش خصال و خوش نہاد
”زاں نمط شدِ محِ دبر کز کمالِ اتحاد
پیکر اُو شد سراسر صورتِ رپِ رحیم“

اس کی آہِ نیم شب سے رات کا سینہ ہے چاک
اس کا چہرہ چاند اور سورج سے بڑھ کرتا بنا ک
سرمهِ چشمِ بصیرت اس کے نقش پا کی خاک
”بُوئے محبوبِ حقیقی می دمد زال روئے پاک
ذاتِ حقانی صفاتش، مظہرِ ذاتِ قدیم“

کیا بتاؤں تم کو اس کا مرتبہ اس کا کمال
ایک ہی دل میں لگن ہے، ایک ہی دل میں خیال
گالیاں بھی دو اگر مجھ کو، نہیں اس کا ملال
”گرچہ منسوبِ کند کس سوئے الحاد و ضلال
چوں دلِ احمد نمی پینم دگر عرشِ عظیم“

تعلیم الاسلام کالج کے تین خوش نصیب، شہید طالب علم

گاہِ گاہِ بازخواں ایں قصہِ عپارینہ را

پروفیسر محمد شریف خان

اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس عظیم مادرِ علمی سے فارغ التحصیل طلباء زندگی کے ہر شعبہ میں ملک و ملت کی خدمت کرتے اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیرونِ ملک کٹھن سے کٹھن امتحانوں میں سرخو ہو کر عزت و آبرو سے انسانی خدمت کر رہے ہیں۔

یہاں تعلیم الاسلام کے تین ہونہار طلباء کا ذکر کرنا مقصود ہے جنہوں نے طالب علمی کے دوران اپنی مفوضہ ڈیوٹی اور عقیدہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان تک کا نذر رانہ بلا دریغ خدا تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور رہتی دنیا تک امر ہو گئے۔

محمد منیر خان شامی شہید (1932-1947)

یہ نوجوان محترم ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب ابوحنفی کے بھنجلے بیٹے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے واقفِ زندگی تھے۔ انہیں جماعت کی طرف سے سائنس کے مضامین میں ایم ایس سی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ 1947ء میں تعلیم الاسلام کالج قادیان میں بی ایس سی کے پہلے سال کے طالب علم تھے۔ سائنس کا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا ادبی مطالعہ بھی بہت وسیع تھا اور صاف ستر اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ انگریزی اور اردو کتب، رسائل و جرائد آپ کے مطالعہ میں رہتے۔ آپ اپنے محلے کی مجلس خدام الاحمدیہ کے فعال رکن تھے۔ اور محلہ میں شریف نوجوان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ کالج کے طلباء کے ساتھ مل کر بزمِ سخن بنائی ہوئی تھی جس

تعلیم الاسلام کالج 1905 میں خدائی منشاء کے مطابق احمدی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاوں اور صحابہ کرام کی التجاویں کے نتیجہ میں خدائی منشاء سے قائم ہوا۔ گاؤں سوت جماعت کی مالی حالت اس نئے خرچے کو اٹھانے کی متحمل نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ کے فضل، مسیح دوران علیہ السلام کی برکت اور بزرگان سلسلہ عالیہ احمدیہ کی دعاوں کے طفیل یہ ادارہ نہ صرف قائم ہوا بلکہ جلد جلد ارتقا میں متازی طے کرتا ہوا پرائزی، ہائی اسکول کی حدود پھلانگتا ہوا ڈگری اور پوسٹ گریجوائیٹ کالج کے طور پر پاکستانی اور بیرونِ ملک متلاشیان علم فضل کی سات دہائیوں سے زائد تک سیرابی کا باعث بنارہ۔

تعلیم الاسلام کالج میں مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی تعلیم کے باعث طلباء کی سوچوں میں وسعت، نیکی، مذہبی اور انسانی اقدار سے محبت، امن اور بھائی چارے کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ اسی طرح ادارے میں طلباء کی ذہنی جلاء کے ساتھ ساتھ کھلیوں کے اعلیٰ انتظام کے باعث جسمانی صحت کا خیال بھی رکھا گیا۔ یہ ادارہ ہر قسم کے دنگا فساد، مارپیٹ سے پاک، صحت مند ماحول میں خدائی راہنمائی کے تحت نصف صدی سے زائد خدمتِ خلق سے سرشار نوجوان پیدا کرتا رہا۔ براہو توصیب کی انہی آنکھ کا کہ اچھے بھلے کام کرتے ادارے کو قومیاً کرائے کر پڑ اور اندھے دولت کے پچاری سرکاری اداروں کے سپرد کر کے اس تعلیمی ادارے کا سالوں سے قائم مثالی مدرسی ماحول تباہ و بر باد کر کے رکھ دیا۔

1947ء کے دوران آپ تعلیم الاسلام کالج قادیان میں بی ایس سی کے طالب علم تھے۔ آپ واقف زندگی تھے اور عربوں سے اپنی ہمدردی کی وجہ سے آپ کو لوگوں نے شامی مشہور کردیا حالانکہ ملک شام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن عربوں سے محبت ضرور تھی۔

او صافِ حمیدہ

آپ خاموش طبعِ مختنی طالب علم تھے۔ انگریزی زبان پر عبور حاصل تھا۔ جماعت سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ امام وقت کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے تھے۔ مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ کرم ماسٹر چوبڑی فضل داد صاحب مرحوم لا بہریین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کالج لا بہری کی تمام کتب پڑھ لی تھیں۔

واقعہ قربانی

آپ حضرت خلیفۃ المسیح الشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اپنے گھر دار الرحمت قادیان بر مکان پروفیسر مولانا خان ارجمند خان صاحب مرحوم معلّم کی حفاظت کے سلسلہ میں مقیم تھے۔ گھر میں دونالی بندوق تھی۔ ادھر ادھر سے سکھوں کے ہونے والے مغلوں کے دوران خوب مقابلہ کرتے رہے۔ ایک رات سکھوں نے ان کے گھر کی دیوار پھانڈ کر اندر ہیرے میں آپ پر حملہ کیا اور آپ کو قربان کر دیا۔ جب خدام کو حکم ہوا کہ وہ ہو شل میں جمع ہو جائیں تو آپ کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئے جب پتہ کیا گیا تو آپ کو گھر کے صحن میں چت پڑا پایا گیا۔ آپ کی انتریاں باہر نکل چکی تھیں اور آپ اللہ کی راہ میں قربان ہو چکے تھے۔ *إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*۔

آپ کے والد صاحب جو ان دونوں ترزانیمیں تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت مخلص انسان تھے۔ دراصل ان سے اخلاص و رشہ میں پایا تھا۔ ان کی ڈائری کے اندر ارج بتاریخ 3 ستمبر 1947ء یہ پر خلوص عبارت درج ہے:

”آج قادیان میں عزیز محمد منیر خاں شامی نے شہادت کی سعادت پائی۔
الحمد للہ رب العالمین“۔

کے ہفتہ واری اجلاسات میں ہر ممبر گزشتہ ہفتہ کے دوران اپنے مطالعہ کا ما حصل پیش کرتا۔ اس طرح ہرکی پھلکی تحریریں پیش کر کے صحت مند علمی تفریخ مہیا کی جاتی۔ یہ دور سیاسی لحاظ سے بڑے فساد کا دور تھا۔ اسرائیل کی ریاست قائم کی جا رہی تھی۔ ملک میں تحریک آزادی آئے دن رخ بدلتی تھی۔ عربوں کے ساتھ مسلمانان عالم کے دل دھڑکتے تھے۔ چنانچہ عربوں سے ہمدردی کے اظہار کے طور پر منیر نے اپنے نام کے ساتھ ”شامی“ کا لاحقہ لگا لیا تھا اور اپنے حلقة، احباب میں ”محمد منیر خاں شامی“ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ والد ملازamt کے سلسلے میں افریقہ میں مقیم تھے۔ گھر اور چھوٹے بہن بھائیوں کی نگرانی بھی منیر کے سپرد تھی۔

1947 کے پر آشوب دور میں ملکی بٹوارے کے وقت جب قادیان کی آبادی پاکستان منتقل ہو رہی تھی، نوجوانوں کو آبادی کے انخلاء میں مدد بینے کے لئے اپنے مغلوں میں ٹھہرے رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سکھ بار بار حملے کر رہے تھے۔ گھر میں دونالی بندوق تھی، منیر نے دن کے وقت تو سکھوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخر کار سکھوں نے رات کے اندر ہیرے میں موقعہ پا کر ان کو شہید کر دیا۔ جب صحیح غرام منیر کی خیریت معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ منیر چاروں شانے چتھن میں خون سے لٹ پٹ پڑے تھے، پیٹ چاک تھا، انتریاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اور ان کی روح کب کی قفسِ غصہ سے پرواز کر چکی تھی، *إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*۔

جب منیر کے والد ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب کو اپنے جواں سال بیٹی کی شہادت کی خبر دیا، غیر افریقہ میں ملی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی توفیق سے یہ صدمہ بڑی بہادری سے سہا۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ نے ”تذکرہ شہدائے احمدیت“ کے سلسلہ خطبات میں 11 جون 1999ء کو مسجدِ فضل لندن میں از راہِ شفقت محمد منیر خاں شامی شہید کا تذکرہ درج ذیل پر شفقت الفاظ میں فرمایا:

”مکرم محمد منیر صاحب شامی مکرم ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب ابو حنفی کے ہاں ترزانیہ میں 1932ء میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔

مستدرکن تھے۔ سکا وٹ تھے۔ کالج کی ہاکی اور فٹ بال ٹیم کے ممبر تھے۔ جب حضور لاہور شریف لاتے تو ہمہ تن ڈیوٹی کے لئے حاضر رہتے۔ اپنی خوش اخلاقی اور شرافت کے باعث دوستوں اور دشمنوں میں برابر چاہے جاتے تھے۔

1953 کے پہلے آشوب زمانہ میں جب لاہور شہر کے قرنیہ پردازوں کی احمدیوں کے خلاف فتنہ و فساد کی بھڑکائی ہوئی آگ پاکستان بھر میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مسٹری نذر محمد صاحب کا لکڑی کا آراجو چوک یادگار کے قریب ٹیکسالی گیٹ لاہور کے سامنے تھا فتنہ گروں نے 6 مارچ 1953 کے دن جلا دیا، مسٹری صاحب آرے کا پتہ کرنے کیلئے جاتے وقت جمال کو کہہ گئے کہ گھر والوں کا پتہ کر آئے جنہیں حفاظت کی غرض سے رشتہ داروں کے ہاں محلہ رنگ محل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔

یہ جمعہ کا دن تھا، میاں جمال احمد صاحب گھر والوں کی خیریت معلوم کرنے کے لئے نکلے تو سامنے سے فتنہ پردازوں کا جلوس آتے ہوئے ملا۔ جلوس میں میاں صاحب کے محلے کے لوگ بھی شامل تھے۔ جنہوں نے جمال احمد کو پکڑ لیا۔ اور پکارنے لگے: ”یہ مرزاںی ہے اسکو مارو۔“ پچھلے لوگوں نے جمال کو ازراہ ہمدردی کہا، ”کہہ دو تم احمدی نہیں ہو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں،“ مگر جمال نے انکار کر دیا۔ آخر ایک صاحب نے قریب آ کر کہا کہ ”مجھے کان میں ہی کہہ دو کہ تم احمدی نہیں ہو میں تمہیں چھڑوا لیتا ہوں،“ مگر جمال صاحب نے جواب بڑی جرأت سے کہا: ”میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہوں، اور اپنی جان چنانے کے لئے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تم نے جو کچھ کرنا ہے کرلو۔“ اس پر تمام مجمع آپ پر پھرلوں اور چاقوؤں سے آن کی آن میں حملہ آور ہوا اور آپ کو موقعہ پر ہی شہید کر دیا۔ *إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*۔

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ جمعہ مطبوعہ افضل 3/ آگسٹ 1999 میں میاں جمال احمد کا واقعہ شہادت از راہ شفقت بیان فرمایا۔

مبشر احمد صاحب چندھڑ شہید۔ گھر منڈی

گھر منڈی ضلع گوجرانوالہ کے مقامی گھر انوں میں چندھڑوں کا گھرانہ سب

پسمندگان

آپ غیر شادی شدہ تھے، آپ کے تین بھائی اور ایک بہن زندہ ہیں۔ سب سے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد حفیظ خان صاحب آج کل ٹورانٹو میں رہتے ہیں۔ ان کے دو چھوٹے بھائی بھی تھے۔ محمد معین خان صاحب لاہور (حال مقیم میامی۔ فلوریڈا، امریکہ۔ نقل) میں اور پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف خان صاحب ربوہ (حال مقیم فلاڈلفیا، امریکہ۔ نقل) میں مقیم ہیں۔ جب کہ ان کی بہن خدیجہ نیگم صاحبہ مائنٹریال میں آباد ہیں۔

(الفضل روہ۔ مورخہ 7 ستمبر 1999)

محمد منیر خان صاحب شہید خاکسار راقم کے بڑے بھائی تھے۔ والد صاحب ڈاکٹر جبیب اللہ خان صاحب مرحوم اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ”ڈڈو ما۔ تنزانیہ کے ہسپتال میں ایک دن ادھر ادھر جاتے ہوئے میرا پاؤں پھسل گیا تو دوسرے ڈاکٹروں نے جو سب انگریز تھے مزاہ افقرہ بازی کی ”لگتا ہے ڈاکٹر خان کے بچے رات کے وقت خان کو سونے نہیں دیتے، اس لئے دن کے وقت پھسل پھسل پڑ رہا ہے۔ بھلاہمیں بتاؤ تو سہی اتنے بچوں کا کیا کرو گے؟“

میں نے انہیں جواب دیا:

”God willing I will make of them a doctor, an engineer, a clergy man and a teacher!“

(انشاء اللہ، میں ان میں سے ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر ایک مولوی اور ایک استاد بناوں گا)۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے۔ ”اللہ تعالیٰ نے میری خواہش کو ہترنگ میں پورا کیا اور مجھے ان بچوں میں سے ایک شہید بھی عطا کر دیا۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَاكَ۔“

محترم میاں جمال احمد صاحب شہید، لاہور

آپ محترم مسٹری نذر محمد صاحب آف بھائی گیٹ لاہور کے صاحبزادے تھے۔ آپ 17 سالہ خوبصورت نو خیز نوجوان تھے اور تعلیم الاسلام کالج لاہور کے ایف ایس سی کے ذہین طالب علم تھے۔ خدام الاحمد یہ بھائی گیٹ کے

احمد کی اطلاع کی گئی تورات گئے غالباً بارہ ایک بجے کا عمل ہو گا کہ آپ کافون آیا کہ تفصیل تائی جائے۔ آپ نے فرمایا ”مجھے نیند نہیں آ رہی اور بے حد بے چینی ہے۔ کیا یہ مبشر احمد وہ تو نہیں جو ہر وقت مسکرا تا رہتا تھا؟“، افسوس کہ یہ وہی مبشر احمد تھا جس کی وفات پر آپ اس طرح بے چین ہو گئے اور کراچی سے فون کیا،۔

انتاعرصہ گزرنے کے باوجود جب بھی عزیزم مبشر احمد کی یاد آتی ہے، طبیعت پر ایک خاص قسم کی افسردگی چھا جاتی ہے۔ اور بے اختیار دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز رحیم شہید کو اپنی رضا کی چادر میں لپیٹ لے، آمین۔

بزرگان احمدیت کی دعاؤں کے طفیل ان تین پھول چہروں نوجوان جان ثاران احمدیت کے علاوہ ہزاروں تعلیم الاسلام کے طلباء، پاکستان میں اس گئے گزرے لوٹ کھسوٹ کے دور میں بھی بلا لچ و طمع ملک و قوم کی بے لوٹ خدمت کر رہے ہیں اور بیرون ملک اپنی محنت اور کام سے لگن اور خلق اللہ سے ہمدردی کے باعث ملک و ملت کے لئے نیک نام ہیں۔ یہ سب احباب جماعت کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور باقی افراد کو مقبول خدمت کی توفیق عطا ہو اور خدا تعالیٰ انکا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ان جیسے جان ثار فرزانوں کے بارے میں حضرت مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی نے کیا خوب فرمایا ہے:

آں رسم قتیلانِ محبت کہ گھن گشت
ما تازہ کنیم از سر نو دارو رسن را
آں منزلِ ہوں بارکہ شد مقتلِ عشاقد
از مقصد ما ہست بصد جوشِ تمنا

اگرچہ دنیا محبت الہی سے سرشار ہو کر جان قربان کرنے والوں کی روایات کو بھول چکی ہے، مگر ہم نے قرون اولیٰ کی ان روایات کو از سر نوتازہ کر دیا ہے۔ حق و صداقت کے عاشق جہاں اپنی جانیں شارکرتے رہے ہیں، اُسی قربان گاہ تک رسائی تو ہماری زندگی کا نصب لعین ہے۔

سے نمایاں تھا۔ چند ہر خاندان کے جد امجد چوہدری نواب خان جنگ میگھیانہ میں سکونت پزیر تھے۔ انکی شادی سیالکوٹ کے ایک احمدی گھرانے میں ہوئی اور وہ احمدی ہو گئے۔ جب انکے بھائیوں کو یہ خبر ہوئی۔ تو ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ایک سکھ کو انعام کا لائچ دے کر چودھری صاحب کا سر لانے کی سازش کی گئی۔ خدا تعالیٰ نے چوہدری صاحب کو دشمن کے دار سے بچایا۔ ان حالات کے پیش نظر سارا خاندان ہجرت کر کے گھر آبسا۔ جہاں زمینوں اور آڑھت کی آمد سے گزر بر ہونے لگی۔

مجھے یہاں چوہدری صاحب کے بیٹے امامت علی صاحب مرحوم کے ہونہار بیٹے مبشر احمد کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ عزیزم مبشر احمد نے گھر ہائی اسکول سے انگلیا 1962 میں میٹرک امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ والدین نے اچھی تعلیم اور تربیت کی خاطر تعلیم الاسلام کا لج ربوہ ایف ایس سی میں داخل کروا دیا، اگرچہ اردو گردگو جرانوالہ اور وزیر آباد میں کا لج مہیا تھے۔ عزیزم خوبصورت، صحیت مند، پس مکھ منفرد نو خیز جوان تھا۔ میں ذاتی طور پر عزیزم کو بچپن سے جانتا ہوں۔ عزیزم کا ہنسنا ہوا چہرہ اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسکی طبیعت میں ایک طرح کا ہلکا چکلا مزاح تھا۔ بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ مودب رہتا۔ مجلس اور جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔

مبشر احمد نے اپنی لیاقت اور خوش خلقی کے باعث کا لج میں سب کا دل موہ لیا تھا۔ عزیزم مبشر احمد موسم گرم کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔ ایک دن بازار میں سے گزر رہا تھا کہ ایک اوپاش قصائی عزیزم کے پیچھے چھری لیکر دوڑ پڑا اور مبشر احمد احمدیت پر جان ثار کرنے کا خخر حاصل کر گیا۔ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

ان دنوں حضرت میاں ناصر احمد صاحب پر نسل تعلیم الاسلام کا لج ربوہ، کراچی گئے ہوئے تھے جب انہیں مبشر احمد کی شہادت کی اطلاع ملی تو اس کا احوال مکرم پروفیسر چوہدری محمد علی صاحب سابق پر نسل تعلیم الاسلام کا لج تاریخ احمدیت جلد 10 صفحہ 143 پر بیان کرتے ہیں:

”جب مرحوم مبشر احمد گھر جو بے حد ذہین طالب علم تھا قتل ہوا۔ اور آپ کی خدمت (پر نسل صاحب۔ نقل) میں شام کو کراچی میں ضمناً ایک اڑ کے مبشر

مکرم سعید احمد صاحب کوٹری راہِ مولیٰ میں قربان ہو گئے

احباب جماعت کو بڑے افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مکرم سعید احمد صاحب کوٹری ضلع حیدر آباد کو مورخہ 19 جنوری 2009 کونا معلوم افراد نے فائرنگ کر کے راہِ مولیٰ میں قربان کر دیا۔ وقوعہ کے روز عشاء کے بعد کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچے۔ گھر کا دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہونے کیلئے دہنیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ اندھیرے میں قریب کھڑے شخص نے کنپی پر پسل سے فائر کر دیا جس سے موقعہ پروفات ہو گئی۔ حملہ آور فرار ہو گیا۔ *إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِحُونَ*۔

مرحوم کی عمر 55 سال تھی۔ نہایت شریف نفس انسان تھے۔ مہمان نواز اور جماعتی خدمت کرنے والے تھے کسی سے کوئی لین دین یا جھگٹرانہ تھا۔

اگلے روز گندل فارم احمد یہ قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ جنازہ میں کثیر تعداد میں احباب نے شرکت کی۔

سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ 23 جنوری 2009 میں ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا:

”آج پھر میں ایک افسونا کخبر سنارہا ہوں کہ ہمارے ایک احمدی بھائی مکرم سعید احمد صاحب جو مکرم چوہدری غلام قادر صاحب اٹھوال کے بیٹے تھے کوٹری شہر میں رہتے تھے ان کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ رات کو تقریباً انو بجے جہاں وہ کام کرتے تھے وہاں سے واپس جا رہے تھے گھر کے دروازے میں داخل ہوتے وقت کسی نے کنپی پر گن یا پسل رکھ کے فائر کیا جس سے آپ موقعہ پر ہی شہید ہو گئے۔ بڑے خدمت خلق کرنے والے تھے۔ ان میں خدمت خلق کا نمایاں جذبہ تھا۔ کسی کی بیماری کا پتہ چلتا تو اس کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتے۔ نہایت سادہ طبیعت رکھنے والے مخلص انسان تھے اور مختنی بھی بڑے تھے ہر قسم کا کام کر لیتے تھے کوئی عار کبھی نہیں سمجھا۔ مہمان نوازی کی صفت بھی بہت نمایاں تھی۔ صبر اور حلم بھی بہت تھا کسی کو غصے میں بھی جواب نہیں دیا۔ بلکہ خاموش رہتے ہی آپ کی تدبیح ہوئی ہے۔ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹیاں یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور بیوی بچوں کو صبر اور حوصلہ دے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا بھی میں ان کی نماز جنازہ نمازوں کے بعد پڑھاؤں گا۔

کیطیا کومبز

--- اصحابِ کھف کی غاریں ---

ڈاکٹر حافظ محمد الحق خلیل

گئی ہیں۔ اور کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے کمرے نظر آتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے راستے اور کمرے ان مشعلوں سے روشن کئے جاتے ہیں جو دیواروں کے ساتھ پیوستہ ہیں۔

ماحول میں افسوس، اداسی اور غمنا کی نام کو نہیں کیونکہ دیواروں پر ایسی تصویریں اور تحریریں موجود ہیں جو ابتدائی چار صدیوں کے مسیحیوں کیلئے امید اور خوشی کی پیغامبر ہیں۔ چھتوں اور دیواروں پر خوبصورت پھلوں کی بینا کاری کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض تصویریں تو سنسنی خیز بھی ہیں۔ مثلاً فاختہ کے منہ میں ناریلیں کی پتی دکھائی گئی ہے جس سے مرادِ روح القدس یا تمام ارواح کا آسمان کی طرف اُڑ جانا ہے۔ یسوع مسیح کو صلیب پر ایک ایسے چڑواہے کی شکل میں دکھایا گیا ہے جو ایک گمشدہ بڑہ اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہے۔ صلیب اس زمانہ میں بطور مذہبی علامت شمار نہیں ہوتی تھی، صرف ایک لنگر (Anchor) ہوتا تھا جو مسیح پر یقین اور امید کے اظہار کے طور پر قبروں پر کھودا جاتا تھا۔ اس سے عہد نامہ جدید کی اس عبارت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے:

”ہم اس امید پر آسرا کرتے ہیں جو ہماری روح کے لنگر کے طور پر ہے۔“

(عبرانیوں 19-5/18)

بعض جگہ پر جہاز کی تصویر کو بطور علامت استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر عجیب و غریب علامت ”چھلی“ کی ہے۔ جو غالباً یسوع مسیح کے نام کی

شہر روم کے بیرونی حصہ میں زمین دوز سڑکیں بھول بھلیوں کی طرز پر بنائی گئی ہیں۔ یہ وہی زمین دوز راستے ہیں جو بعد میں ”کیطیا کومبز“ کے نام سے موسم ہوئے۔ صحائف قمران کی طرح یہ کیطیا کومبز ابتدائی کلیسا کی تاریخ مرتب کرنے میں بہت مدد و معاون ثابت ہونے کے علاوہ نہایت درجہ دلچسپ بھی ہیں۔ کیطیا کومبز کے لفظی معنی معلوم نہیں ہو سکے۔ اغلبًا یہ کسی ضلع کا نام تھا۔

شہر روم کے اندر اندر کوئی میت دفنانے کی اجازت نہ تھی۔ بڑے بڑے مقبرے شہر کے باہر سڑکوں کے کنارے بہت خوبصورت اور مرصع بنائے جانے کا رواج تھا۔ جہاں روم کے معزز خاندانوں کے افراد کی تدفین ہوتی تھی۔ روم میں بننے والے مسیحیوں کو زیادہ جاذب نظر بننے کا شوق نہیں تھا اسلئے انہوں نے اول اول کیطیا کومبز قبرستان کے طور پر بنائیں۔ اس طرح سے خصوصیت کے ساتھ چھپ سکنے کیلئے کوئی جگہ بنانا مقصود نہیں تھا۔ کیونکہ مقبرہ بنانے سے قبل اُسے سرکاری طور پر جسٹرڈ کروانا ضروری ہوتا تھا۔ اور حکام کو گورستان کے محل وقوع سے اطلاع دینا ضروری فرار دیا گیا تھا۔

جب کسی قوم کو ایک خاص جگہ میں مرحومین کو دفنانے کی اجازت مل جاتی تو روی قانون کی رو سے وہ قطع زمین واجب لشکر یم سمجھا جاتا تھا۔ اور اس میں ناجائز مداخلت کرنے والے کو نہیں بے حرمتی کی بناء پر سخت سزا دی جاتی تھی۔ کیطیا کومبز عجیب و غریب مقامات ہیں۔ ایک ڈھلوانی سطح والے راستے پر بھول بھلیوں کی طرز پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جہاں مقابر ہیں۔ وہاں مشعلیں بنائیں

ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم بعض لوگوں نے خوشنطی سے بھی تصویریں بنادی ہیں۔ یا بعض نشانات چٹانوں پر کندہ کر دیتے ہیں۔ یہ تحریریں اور تصویریں بعض ایسے عام آدمیوں کے حالات بتاتی ہیں جو تاریخ میں مذکور نہیں۔ ایک کتبہ پر کسی نجgar نے اپنے اوزاروں کی تصویریں کھپھی ہیں۔ یہ چیزیں اسکے مرنے کے بعد وہیں رکھتی تھیں۔ بعد میں اسکے رشتہداروں نے اسکی تصویر بھی بنادی۔

ایک اور پھر پر شراب کشید کرنے کے آلات اور کشیدگی کی تصویر ہے ساتھ ہی گادریت کے بھائی کی تحریر لکھی ہوئی ہے:

گادریت کے نام، اسکے بھائی نے یہ تصویر بنائی۔

(موسلاہ: محمد ادريس چودھری، جارجیا)

سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں

سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں
اے مرے بد خواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار

کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں
اک ادا سے ہو گیا میں سیلِ نفسِ دُوں سے پار

اس قدر عرفان بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا
آنکھ میں اُس کی کہ ہے وہ دُور تراز صحنِ یار

اس رُخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی
ہو گئے اسرار اُس دلب کے مجھ پر آشکار

کیا تماشہ ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے
پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار

(از دُرّشین)

قائم مقامی کر رہی ہے کیونکہ مچھلی کو یونانی زبان میں JCHTHVS کہتے ہیں۔ اس یونانی لفظ کا ہر ایک حرف ایک لفظ کی قائم مقامی کر رہا ہے اور مسیحی عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ L سے مراد Jesus، CH سے مراد Christ، TH سے مراد God، اور S سے مراد Saviour & Son ہے۔ ملاحتہ ہو کہ یعنی Jesus Christ, God, Son & Saviour ہے۔ ملاحتہ ہو کہ صرف مچھلی کی تصویر سے کتنے معنی اخذ کر لئے گئے ہیں۔ جہاں جہاں بھی روی کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں ان مقامات پر اس مچھلی کا نشان آؤزیزاں ہے۔

مندرجہ بالا حروف سے الفاظ کی تعبیر نکالنا صرف عقیدہ کی خوش فہمی ہے۔ اگرچہ مسیح کا صلیب سے زندہ نجج جانا دھانا چاہتے ہیں مگر زیادہ قریب قیاس یونس کا مججزہ ہو سکتا ہے۔ کتبوں اور دیواروں پر نہایت درجہ دیدہ زیب تصاویر بنائی گئی ہیں۔ جن میں سے بعض بائبل میں مذکورہ واقعات پر مبنی ہیں۔ مصائب اور خطرات سے بچنے، قبولیت دعا اور مغفرتِ الٰہی کے واقعات کو مددِ نظر رکھا گیا ہے، مثلاً یونس علیہ السلام اور مچھلی کی تصویر، نوح علیہ السلام کشتمیں، تین نوجوان دیکنی آگ کی کھائیوں میں، دانیال نبی شیر کی کچار میں، اور ایک جگہ پر موئی علیہ السلام پھر پر اپنا عصا مارتے ہوئے۔ عہد نامہ جدید کے واقعات پر مشتمل تصاویر نادلوقوع ہیں۔ روئی اور مچھلی کا مججزہ (جو بعض کے نزدیک EUCHRIST کا قائم مقام ہے)۔ ماگی کی مناجات، عشاۓ ربائی کا مردوں سے زندہ ہونا نیز بیماروں کی شفا یابی کے واقعات یسوع مسیح کی قوت شفا کا اظہار تصویری پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ جاہل اور ان پڑھ لوگوں کیلئے یہ تصاویر نہایت درجہ مفید تھیں کیونکہ یہ عہد نامہ قدیم و جدید کی کتابوں کی کمی کو بخوبی پورا کرتی تھیں۔ بعض مناظر ایسے بھی ہیں جو اب تک پوری طرح سے سمجھے نہیں جاسکے؛ مثلاً کھانا کھانے کے بعض مناظر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے کہ ان سے کیا مراد ہے؟

دیواروں پر تصویر کشی مہارت و فن کا پورا نمونہ ہے۔ بعض اوقات غیر مذاہب والوں سے ہدایات لے کر تصاویر بنائی گئی ہیں۔ لیکن بعض اوقات عیسائیوں نے بھی یہ کام اپنی سکیم کی خاطر سرانجام دیا۔ تصویر کشی کیلئے فنی مہارت کی بڑی

پیشگوئی مصلح موعود کے سلسلہ میں

ایک ضروری وضاحت

عطاء الجیب راشد۔ امام مسجد فضل۔ لندن

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشانوں میں سے ایک اہم اور غیر معمولی عظمت کا حامل نشان پیشگوئی مصلح موعود سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نشان کو اجاگر کرنے کے لئے جماعت میں یہ طریقہ جاری ہے کہ ہر سال 20 فروری کو یا اس کے قریبی دنوں میں جلسے منعقد کئے جاتے ہیں جن میں پیشگوئی سے متعلق مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہوتا ہے۔

اس شمن میں دیکھا اور سنا گیا ہے کہ اکثر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ سے تعلق رکھنے والی پیشگوئی (جس کا اعلان 20 فروری کو ہوا) سبزرنگ کے کاغذات پر شائع کی گئی جس سے مراد عام طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ”سبرا شہرار“ لی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ بات اس طرح پر نہیں بلکہ اس سلسلہ میں کسی قدر وضاحت کی ضرورت ہے۔

یہ بات تو درست ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان پیشگوئی عطا فرمائی تو آپ نے 20 فروری 1886 کو اس بارہ میں ایک نوٹ تحریر فرمایا جو کیم مارچ 1886 کو اخبار ریاض ہند کے خصیمہ کے طور پر شائع ہوا۔ یہ اخبار عام سادہ کاغذوں پر چھپا تھا۔ سبزرنگ کے کاغذ نہ تھے۔ بعد ازاں اس سلسلہ میں 22 مارچ 1886 کو ایک اور اشتہار بھی شائع ہوا جس میں یہ وضاحت درج تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ یہ فرزند موعود نو سال کے عرصہ کے اندر اندر ضرور پیدا ہو جائے گا۔

اس کے بعد جو واقعات رومنا ہوئے وہ ترتیب وار درج ذیل ہیں:

① حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹی عصمت کی ولادت 15 اپریل 1886 کو ہوئی (جو 1891 میں فوت ہو گئی)۔ اس کی ولادت پر مخالفین نے اعتراض کیا جس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دیا کہ ہرگز یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پہلا بچہ ہی موعود فرزند ہوگا۔ ہاں فرزندِ موعود اپنی مقررہ مدت کے اندر اندر کسی وقت ضرور پیدا ہو جائے گا۔

② بعد ازاں 7 اگست 1887 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا نام بشیر (اول) رکھا گیا۔ یہ بیٹا 4 نومبر 1888 کو فوت ہو گیا۔ اس بیٹے کی وفات پر ایک بار پھر غیر از جماعت مخالفین نے نخت شور و غونا کیا اور طوفان بند تیزی برپا کر دیا کہ دیکھو یہ پیشگوئی ایک بار پھر جھوٹی ثابت ہوئی۔ پہلے بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ اور اب بیٹا پیدا تو ہوا لیکن لمبی عمر پانے کی بجائے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا ہے۔

اپنی نادانی اور مخالفت میں ان لوگوں نے سخت بدزبانی کی اور پیشگوئی کے غلط ہونے کے دعوے کرتے ہوئے بغیض بجانے لگے۔

(۲) اس موقع پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیم ڈسمبر 1888 کو ایک مختصر رسالہ تحریر فرمایا جس کا عنوان تھا ”حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر“۔ اس میں آپ نے اس پیشگوئی کے مضمون کی ایک بار پھر وضاحت فرمائی اور بہت تحدی اور جلال سے تحریر فرمایا کہ فرزندِ موعود (جو بے شمار خوبیوں کا مالک ہوگا) کی ولادت کا وعدہ خدا نے ذوالجلال والا کرام کی طرف سے ہے اور یہ وعدہ اپنے وقت پر مقررہ مدت کے اندر لازماً پیدا ہو کر رہے گا۔ فرزندِ موعود کی ولادت کے بارہ میں آپ نے تحریر فرمایا:

”خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹھیل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹھیل ناممکن نہیں“

(سبز اشتہار صفحہ 7 حاشیہ۔ روحاںی خزانہ جلد 2 ص 453)

یہ مختصر رسالہ سبزرنگ کے کاغذات پر شائع کیا گیا اور اسی مناسبت سے اس رسالہ کا نام ”سبز اشتہار“ رکھا گیا۔ اور اسی نام سے یہ جماعت میں معروف ہے۔

(۳) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 12 جنوری 1889 کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک فرزند سے نوازا جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں آپ پر واضح فرمایا کہ یہی وہ فرزندِ موعود ہے جو اس پیشگوئی کا حقیقی مصدقہ ہے۔ اس بیٹی کا نام محمود احمد رکھا گیا جو جماعتی لٹریچر میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد (خلیفۃ المسیح الثانی) کے نام سے معروف ہے۔

الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات پوری ہوئی اور اس کی عطا فرمودہ پیشگوئی بڑی عظمت شان اور جلال کے ساتھ اپنے وقتِ موعود پر پوری ہوئی اور آپ کے وجود میں وہ سب نشانیاں پوری آب و تاب کے ساتھ ظہور پذیر ہوئیں۔ جن کا اس پیشگوئی میں ذکر کیا گیا تھا۔
اس پیشگوئی کے تعلق میں مندرجہ ذیل تاریخیں یاد رکھنے کے لائق ہیں۔

☆ مصلح موعود والی پیشگوئی 20 فروری 1886 کو لکھی گئی۔ اخبار میں اشاعت کیم مارچ 1886 کو ہوئی۔

☆ 22 مارچ 1886 کو بذریعہ اشتہاریہ وضاحت کی گئی کہ فرزندِ موعود نو سال کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔

☆ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں بیٹی عصمت کی پیدائش 15 اپریل 1886 (وفات 1891)

☆ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں ایک ایک بیٹی بشیر (اول) کی ولادت 7 اگست 1887 کو ہوئی۔ یہ بیٹا 4 نومبر 1888 کو فوت ہو گیا۔

☆ سبز اشتہار کی اشاعت کیم ڈسمبر 1888 کو ہوئی جس میں یہ تحدی کی گئی کہ فرزندِ موعود نو سالہ مدت کے اندر اندر لازماً پیدا ہو جائے گا۔

☆ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ولادت 12 جنوری 1889 کو ہوئی جن کے ذریعہ یہ عظیم الشان پیشگوئی بڑی وضاحت اور شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ الحمد للہ علی ذالک۔